



کفر و شرک

شراب نوشی

فتنہ و فساد

حسد و کینہ

مشابہت کفار  
تساوی بین الناس

باہمی رنجش

فاشی اور بدکاری

# انسان

اور

# شیطان

فلسفہ تہذیب و تمدن

جواہر

بداعت و مصلحت

حرام کاری

جنود اہلس

قتل و غارت

محبت و نافرمانی

بغض و عداوت

شیطان مکر و فریب سے بچاؤ کی تدابیر  
قرآن و سنت کی روشنی میں



ناشر

حافظ امیر محمد علی شوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

\*\*\* توجہ فرمائیں! \*\*\*

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* تنبیہ \*\*\*

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر  
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

[webmaster@kitabosunnat.com](mailto:webmaster@kitabosunnat.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

6

کفر و شرک

شہادت نامہ

حسد و کینہ

خانی بربورگ

بوادیر

ملاعت

7

تقتل

بغض و عداوت

ملاعت

بغض و کینہ

بغض و کینہ

بغض و کینہ

شیطان مکرو فریب پچاؤ کی تدابیر  
قرآن و سنت کی روشنی میں



تالیف  
حافظ امبشیر حسین لاہوری

263-6  
م س س - 1



قرآن و حدیث اور فلسفہ کی ترجمان

## جملہ حقوق برائے ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- انسان اور شیطان  
مصنف ----- حافظ امین حسین لاہوری  
تاریخ اشاعت ----- جولائی 2004ء  
تعداد ----- 1000  
قیمت ----- 90 روپے  
کمپوزنگ ----- ندیم شکیل  
ڈیزائننگ ----- مڈر

مبشر احمد کی جملہ مطبوعات پاکستان بھر کے تمام ہوائی سب خانوں سے طلب فرمائیں۔ خصوصاً: لاہور: نعمانی سب خانہ،  
کتیبہ قدوسیہ، کتبہ طلیقہ، کتبہ اسلامیہ، اسلامی اکادمی، اسلامک پبلی کیشنز، دارالاسلام بالمصلح، مشورات، معارف اسلامی، منصورہ،  
دارالفرقان، کتاب سرائے، اردو بازار لاہور، مگر جس کو وہ کتبہ نعمانی، والی کتاب گھر، دارالاسلام، اردو بازار، حیدر کتبہ اسلامیہ،  
دارالمجموعہ، بازار امین، جنور، کتاب گل، اردو بازار، مقدم، آید، اسس، دارالاسلام، کس، کریم، کتبہ نور، روشن، قابل، فضلی، بک، اردو بازار

ناشر: مبشر احمد لاہور  
E-Mail: [mubashir@hotmail.com](mailto:mubashir@hotmail.com) PH: 0300 4602878

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### فہرست ..... انسان اور شیطان

صفحہ نمبر	موضوعات و عنوانات	صفحہ نمبر	موضوعات و عنوانات
11	مقدمہ الکتب	9	پیش لفظ
14	شیطان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر	11	مختلف ادیان و مذاہب کا 'تصور شیطان'!
17	شیطان، شیطان اکبر اور نہیں انسانی	15	شیطان ایک خارجی وجود ہے
18	شیطان کی قوت و طاقت کی حقیقت	17	شیطان کا مقصد پیدائش
19	فلسفہ خیر و شر اور شیطان کا کردار!	18	شیطان سے بچاؤ کی تدابیر
20	نیت و ارادے کے معیار کا فلسفہ!	19	اضافی اقدار کا فلسفہ!
22	مجموعی سود مندگی کے معیار کا فلسفہ!	20	لذت و مسرت کے معیار کا فلسفہ!
23	مسئلہ خیر و شر اور قرآن و سنت کی تعلیم؟	22	عقل اور وحی کے معیار کا فلسفہ!
27	خیر و شر کے خالق کا مسئلہ؟	25	انبیاء و رسل اور وحی ہدایت
32	امین احسن اصلاحی اور ابلیس!۔۔۔!	30	خیر و شر اور شیطان کا کردار.....؟
44	باب (1) شیطان .....؟ ایک تعارف!	36	فلسفہ خیر و شر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر
45	انسانی شیاطین اور جتنی شیاطین	44	شیطان کے کہتے ہیں؟

46	جنات اور شیطان اکبر	46	مومن جن اور شیطان جن
48	شیطان اکبر کہاں رہتا ہے؟	47	جنات کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟
50	شیطان اکبر اور ہر انسان کا شیطان	49	شیطان اکبر کے مددگار کون ہیں؟
55	باب (2) نفسِ امارۃ، لَوْ اَمَّهٖ، مُطْمَئِنِّتْہٖ اور شیطان!	52	کیا شیطان اکبر یا عام شیطان مسلمان ہو سکتا ہے؟
57	دل سوچتا ہے یا دماغ؟	52	نفسِ انسانی کی مختلف حالتیں
61	کیا فرشتے اور شیاطین خیالات دل۔۔	59	خیالات دل اور شیطان کا کردار
66	شیطانی وسوس اور مولانا مودودی۔۔	62	شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟
71	نبی و رسول اور شیطانی وسوسہ؟	70	شیطانی وسوس اور انبیائے کرام
73	شیطانی وسوس کا لوگوں پر اثر	72	لاات و منات کا من گھڑت قصہ
84	حقیقت جن اور منکرین جنات کے اعتراضات کا علمی محاکمہ	74	باب (3) شیاطین اور جنات کی دنیا، ایک نظر میں
84	شیطان انسان کا ازلی دشمن.....!	103	باب (4) شیطان کے عزائم!
84	شیطان کی بیروی نہ کرو!	106	شیطان نے گمراہی کی راہ کیوں اپنائی؟
109	شیطان اظہار برأت کر دے گا!	107	شیطان کی بیروی کرنے والا نقصان میں
109	قصہ حضرت آدم اور ابلیس کا!	110	باب (5) شیطان کی تاریخی وارداتیں
128	قصہ قوم نوح اور شیطان کا کردار!	123	قصہ ہابیل و قابیل اور شیطان۔۔
132	آسمانی ہدایت کی بیروی	131	باب (6) شیطان اور مسلمان!
132	آبندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا۔	134	باب (7) شیطان کے عقوبتیں؟
136	۳۔ اللہ کی اطاعت سے روکنا۔	135	۲۔ گناہوں میں مبتلا کرنا۔
139	۵۔ جسمانی اور ذہنی ایذا پہنچانا	137	۳۔ عبادت میں خرابی پیدا کرنا

139	2- شیطانی خواب	139	1- نبی ﷺ پر شیطان کا حملہ
139	4- موت کے وقت شیطان کا حملہ	139	3- گھروں میں آتش زدگی
140	6- طاعون (پلیگ) کی بیماری پیدا کرنا	140	5- پیدائش کے وقت بچے کو تکلیف
141	8- کھانے، پینے میں شیطان کا حصہ!	141	7- ایک دوسری بیماری!
144	باب (8) شیطان کے ہتھکنڈے	143	9- آسیب زدگی
147	کالے دھندے گورے نام	143	۱- باطل کی تزئین
149	۳- آج نہیں تو کل	148	۲- افراط و تفریط
152	۵- انسان سے اظہار ہمدردی	151	۳- جھوٹا وعدہ اور جھوٹی امید
156	۷- نسیان و غفلت	156	۶- گمراہ کرنے کا تدریجی طریقہ
158	۹- نفس پر قبضہ	158	۸- فوج کا خوف
162	شراب، جوا، بت پرستی اور قال نکالنا	159	۱۰- شکوک و شبہات ڈالنا
167	۱۶- انسان کی کمزوری	165	۱۵- جادوگری و جادو کی حقیقت
169	۱۸- گیت و سنگیت اور موسیقی	169	۱۷- عورت اور دنیا سے محبت
171	شیطان کا انسان کے نفس تک پہنچنا	170	۱۹- شریعت کی پابندی میں سستی
172	۱۱- حد درجہ احتیاط!	172	باب (9) شیطان سے مقابلہ کرنے کے لئے مومن کا ہتھیار
174	۱۱- اللہ کے حضور چاہ مانگنا	172	۲- قرآن و حدیث کی پابندی
178	۵- مسلمانوں کی جمعیت سے وابستگی	177	۳- ذکر الہی میں مشغولیت
179	۷- شیطان کی مخالفت	179	۶- شیطانی منصوبوں اور عاملوں کی۔۔
181	جہائی لینا شیطان کی طرف سے ہے	180	جلد بازی شیطانی کام ہے

182	۹۔ شک و شبہ کا ازالہ	181	۸۔ توبہ اور استغفار
184	شیطان کا بہروپ!	184	باب (10) روحوں کی حاضری؟
189	جنوں کی خدمت لینے کی شرعی حیثیت	188	شیطان کی خدمات حاصل کرنے کے۔۔
192	مردہ روحوں کی حاضری؟	190	روحوں کو حاضر کرنے کا ڈرامہ
198	روحیں حاضر کرنے کا پروپیگنڈہ؟	192	ایک قدیم طرز فراڈ
201	قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟	201	کیا روحوں کو حاضر کرنا ممکن ہے؟
203	شیطانوں کی اپنے پرستاروں سے۔۔	202	ایک شبہ اور اس کا جواب
206	اس قصہ پر ہمارا تبصرہ	204	ایک قصہ شیطانوں کا۔۔۔!
211	باب (11) شیطان کی تخلیق کا فلسفہ	208	جن شیطان اور اژدن طشتریاں!.....
211	۲۔ بندوں کا گناہوں سے ڈرنا	211	۱۔ شیطان اور اس کے پیلوں سے۔۔
212	۳۔ شیطان باعث فتنہ و آزمائش	212	۳۔ شیطان سامان عبرت
213	۶۔ ضد کا حسن ضد سے ظاہر ہوتا ہے!	213	۵۔ متضاد چیزوں کے تخلیق کے۔۔۔
214	۸۔ تخلیق ابلیس، عبودیت کی گرم۔۔	213	۷۔ شیطان کے ذریعہ آزمائش۔۔۔
214	۱۰۔ اللہ کے اسماء کے متعلقات کا۔۔	214	۹۔ تخلیق شیطان اللہ کی نشانیوں کے۔۔
215	۱۲۔ ابلیس کا وجود اللہ کی کمال حکمت	215	۱۱۔ اللہ کی مکمل حکومت و تصرف کا ظہور
216	ابلیس کے زندہ رہنے کی حکمت!	215	۱۳۔ ابلیس کی تخلیق اللہ کے صبر۔۔
216	سابقہ نیک اعمال کے بدلہ میں لمبی۔۔	216	بندوں کا امتحان
217	تاکہ مجرموں پر مسلط ہو جائے!	217	گناہوں میں اضافہ کے لیے لمبی عمر
222	باب (12) ابلیس کی حقیقت (فرشتہ یا جن؟)	219	انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کہاں تک کامیاب ہوا!؟!



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ

’شیطان‘ کے بارے میں مختلف ادیان و مذاہب میں کوئی نہ کوئی تصور ضرور پایا جاتا ہے، کہیں اسے فرضی وجود کے ساتھ مختلف بتوں اور دیوتاؤں کی شکل میں تسلیم کیا جاتا اور قابل پرستش سمجھا جاتا ہے اور کہیں اسے انسان کے نفس امارہ اور خواہش شرکی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ خود مسلمانوں میں بعض لوگ اس کے وجود کے انکاری رہے ہیں اور بعض اپنے کالے دھندے چلانے اور شیطان کو خوش کرنے کی خاطر آج بھی اس کی عبادت و اطاعت کا شکار ہیں!

شیطان کیا ہے؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابلیس (شیطان اکبر) اور عام شیطانوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کتاب ہذا میں دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں فلسفہ خیر و شر، دنیا میں ہونے والی برائیوں میں شیطان کا کردار، ورخود انسان کے ارادہ و اختیار کی نوعیت وغیرہ پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے اس ضمن میں بہت سے گمراہانہ افکار کا رد بھی کتاب ہذا کی زینت ہے۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں ائمہ سلف سے استفادہ کے علاوہ بھی بعض اہل علم سے خصوصی طور پر استفادہ کیا گیا ہے جن میں معروف عربی عالم دین ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر، مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ، مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ، عبدالرحمن مباکپوری (صاحب تحفۃ الاحوذی) کے نواسے مولانا غازی عزیز شامی ہیں۔ ان علمائے کرام کے مباحث سے جہاں جہاں استفادہ کیا گیا ہے، اس کی نشاندہی اگرچہ کتاب کے حواشی میں موجود ہے مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ کتاب ہذا مذکورہ بالا علمائے کی تحقیق و تصنیف ہے جسے راقم الحروف نے اپنی ترتیب و صحیح اور اضافے کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اس لیے اگر کتاب میں کہیں کوئی خامی ہے تو اسے راقم الحروف کی طرف منسوب کیا جائے اور اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔

## ”سلسلہ دعوت و اصلاح“

راقم الحروف نے آج سے کچھ عرصہ پیشتر ’سلسلہ دعوت و اصلاح‘ کے عنوان سے ایک کتابی سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد ایسی کتابیں منظر عام پر لانا تھا جو لوگوں کے عقائد و نظریات میں پائے جانے والے بگاڑ کی اصلاح کریں اور لوگوں کو براہ راست قرآن و سنت سے مربوط کریں۔ اس سلسلہ کے تحت اب تک چار کتابیں شائع ہو کر بحمد اللہ خوب پذیرائی حاصل کر چکی ہیں اور امید ہے کہ اس سلسلہ کی باقی کتابوں کو بھی اسی طرح پذیرائی ملے گی۔ ان شاء اللہ!

اس سلسلہ دعوت و اصلاح کے تحت چونکہ علمی و فکری مباحث پر مشتمل اصلاحی کتابیں پیش کرنا مد نظر ہے، اس لیے شروع ہی سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ تحریر کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور دلچسپ اسلوب میں پیش کیا جائے تاکہ صرف اردو پڑھ لینے والے حضرات بھی اس سے اچھی طرح مستفید ہو سکیں۔ آئندہ کتابوں میں اس بات کا اور زیادہ التزام خود قارئین محسوس کریں گے۔ اس سلسلہ میں شامل کتابوں کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

✽ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ ✽ پھر ان میں پاک و ہند کا مخصوص پس منظر اور علاقائی مسائل بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہر موضوع پر مواد پیش کیا گیا ہے۔ ✽ ان کتابوں میں براہ راست قرآن مجید اور صحیح احادیث سے جا بجا استدلال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم مسائل میں صحابہ و تابعین کے اقوال اور علمائے سلف کے افکار کو بھی بطور خاص حوالے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ✽ ہر کتاب میں اس موضوع سے متعلقہ مختلف مسائل کے حوالے سے پائی جانے والی فرط و تقریباً، مگر لہانہ فکر اور غلطی ہائے مضامین کی خاطر خواہ نشاندہی و تردید بھی کی گئی ہے۔ ✽ علمی و فکری مباحث کو ایسے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا یوریت محسوس نہ کرے۔

اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی کتابوں پر جو علمی و عملی محنت ہو رہی ہے اس کا اندازہ یا مجھے ہے یا میرے رب کو۔ ہر موضوع پر لکھنے سے پہلے اس سے متعلقہ ہر طرح کا مواد اکٹھا کرنا، ثبوت شدگان اصحاب علم کے مابین نازل لٹریچر کو کھنگالنا، وقت کے اہم اور ممتاز علما سے علمی تبادلہ کرنا، غلطی ہائے افکار کا شمار حضرات سے براہ راست بحث و مباحثہ کرنا، پھر کتابوں کی شکل میں جوہر خالص پیش کرنا..... چند ایسے اشارے ہیں جن سے اس تک و دو کا کچھ اندازہ بہر حال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود خطا و نسیان کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے قارئین سے التماس ہے کہ جہاں کوئی علمی کوتاہی اور فنی خامی دکھائی دے اس سے مطلع فرما کر مہکوروں، شکر یہ! محتاج دعا و اصلاح / حافظ مبشر حسین لاہوری؛ ناظم مبشر اکیڈمی، لاہور۔ 03004602878

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمۃ الكتاب

### مختلف ادیان و مذاہب کا 'تصورِ شیطان'!

شیطان کیا ہے.....؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا.....؟ یہ کوئی وجود رکھتا ہے یا نہیں.....؟ اگر رکھتا ہے تو اس کے پاس کس قدر قوت و طاقت اور اختیارات ہیں.....؟ انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے.....؟ اس کے مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر کارگر ہو سکتی ہیں.....؟؟

یہ اور اس نوعیت کے کئی ایک سوالات ہر انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب اور اقوام و ملل میں ان کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ 'شیطان' ایک وجود رکھنے والی مخلوق ہے۔ اگرچہ بعض فلاسفہ نے اسے بدی کی طاقت سے موسوم کرتے ہوئے ایک غیر وجودی چیز قرار دیا مگر اس کے باوجود وہ مجبور تھے کہ لوگوں کو بدی سے ڈرانے کے لیے وہ اسے کسی خوفناک اور مہیب تمثیل کے ساتھ بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں تمام اقوام و ملل میں شیطان کے نام سے مختلف بت، دیوتا وغیرہ پڑھنے، سننے اور عجائب گھروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔

"شیطان کی تاریخ" (از پال کیرس، مترجم: نیا سر جواد) نامی کتاب میں

مختلف مذاہب کے لوگوں کے تخیلاتی شیطانوں کی فرضی صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ یہی مصنف آخر میں لکھتا ہے کہ

”سچی اقوام میں ’تصور شُر‘ کو شخصی صورت دے دیا جاتا یعنی امر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اپنے شیطان و عفریت نہ ہوں جو دکھ، اذیت اور بربادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصر میں تاریکی کی قوتوں سے خوف کھایا اور انہیں مختلف ناموں مثلاً سیت، بیس یا نائی فون سے پوجا جاتا تھا۔ اگرچہ برہمن مت کے قدیم دیوتاؤں میں نیک اور بد دیوتاؤں کی تمیز نہیں کی گئی مگر ہم عظیم دیوتاؤں کے بادشاہ، مہیش، پر عظیم دیوی ’مہامایا‘ کی فتح کے متعلق جانتے ہیں۔ بودھیوں نے شیطان کو ’مار‘ کی شخصی صورت دی جو تحریس دلانے والا شہوت اور گناہ کا باپ اور موت عطا کرنے والا ہے۔ ’کالدیوں‘ نے ’تیامت‘ کو بے ترتیبی اور انتشار کا شخصی نمائندہ بنایا۔ اہل فارس اسے ’انگرا مینویا‘ اہرمن (تاریکی کا شیطان) کہتے ہیں۔ قدیم ٹیون اور Norsemen نے اسے Loki کا نام دیا۔“ [ص ۱۶۵، ۱۶۶]

یہ تو تھا شیطان کے وجود کے بارے میں مختلف مذاہب کا نقطہ نظر، باقی رہا شیطان سے متعلقہ دوسرے سوالات (مثلاً اس کے انسانوں سے تعلقات کی نوعیت، قوت و طاقت وغیرہ) کے حوالے سے لوگوں کے خیالات، تو اس بارے میں تاریخی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ہر دور میں شیطان کو اپنا خطرناک دشمن سمجھتے رہے ہیں۔ کہیں کوئی تباہی، آفت، سیلاب، نقصان وغیرہ کا سامنا ہوتا تو وہ یہی سمجھتے کہ شیطان اور اس کے لشکر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا، کسی کا عزیز فوت ہوتا، کسی کے کاروبار میں خسارہ ہوتا، کسی کا مقصد پورا نہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ میرا شیطان مجھ سے ناراض ہے۔ پھر اس شیطان کو راضی کرنے اور اپنے زعم میں اس کی طرف سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لئے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کی پوجا کرتے۔

اس پوجا پرستش کے لیے لوگ بت کی شکل میں شیطان کی فرضی صورت بنا لیتے اور اپنی طرف سے جس انداز سے بھی اس کی پوجا پرستش ممکن ہوتی اسے اختیار کرتے۔ ان شیطانوں کے نام پر نذر و نیاز، ان کے آگے رکوع و سجود اور ان کے نام پر صدقہ و خیرات

وغیرہ تو معمولی چیزیں تھیں جو یہ لوگ بروئے کار لاتے جب کہ ضرورت پڑنے پر ان شیطانوں کے ناموں پر انسانوں کی قربانیاں پیش کرنے سے بھی لوگ گریز نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک آدھ انسان کی ہر سال کی قربانی دے کر ہم شیطان دیوتا کو راضی کر لیں گے اور اس طرح ایک فرد پورے معاشرے کو مالی و جانی تباہی سے بچالے گا۔ اہل مصر کا ہر سال ایک کنواری دو شیزہ کو دریائے نیل کے لیے قربان کرنا، اور ہندوؤں کا اپنے خود ساختہ معبودوں کو راضی کرنے کے لیے بچوں کو ان کے نام پر ذبح کرنا معروف تاریخ حقائق ہیں۔ 'کیپٹن جان سمٹھ' نامی ایک مصنف نے اپنی کتاب 'ورکس آف کیپٹن' [ص ۴۷] میں سترہویں صدی عیسویں میں درجینا میں شیطان کی پرستش کا ایک منظر اس طرح بیان کیا ہے:

”..... لیکن ان کا مرکزی خدا 'شیطان' ہے جسے وہ Okee (دیوتا) کہتے ہیں۔ وہ اس سے محبت کرنے کی نسبت خوف زیادہ کھاتے ہیں۔ ان کے معبودوں میں اس شیطان خدا کی شبیہ رکھی ہے جسے زنجیروں اور لوہے کی چیزوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ملک کے کچھ حصوں میں وہ ہر سال بچوں کی قربانی دیتے ہیں مثلاً جیموناؤن سے کوئی ۱۰ میل کے فاصلے پر واقع Quiyoughcohanoch میں قربانی اس طریقہ سے دی جاتی ہے کہ وہ ۱۵ تا ۱۰ سال کے ۱۵ لڑکوں کے جسم پر سفید رنگ مل کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ لوگ دوپہر تک ان کے گرد ناچتے اور گاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت وہ ان بچوں کو ایک درخت کی جڑوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر ان کے گرد پہرے دار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پانچ افراد باری باری ایک لڑکے کو پکڑ کر لاتے اور نرسل سے بنے ہوئے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ اس دوران عورتیں آہ و زاری کرتی اور اپنے بچوں کے کفن و دفن کا انتظام کرتی ہیں۔ اس کے بعد محافظ درخت کے تنے اور شاخیں کاٹ پھینکتے ہیں اور پھر بچوں کو مار کر ایک وادی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سب لوگ نزدیک ہی بیٹھ کر دعوت اڑاتے ہیں۔ قبیلے کے سردار سے اس قربانی کا مقصد پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ بچے ہرگز مرے نہیں تھے، بلکہ Okee یا شیطان نے ان کی بائیں چھاتی سے خون چوس لیا تھا یہاں تک کہ وہ بے جان ہو گئے۔ باقی بچوں کو نو ماہ تک ویرانے میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ انہی بچوں میں سے وہ اپنے پادری اور مذہبی پیشوا منتخب کرتے تھے۔ وہ اس

قربانی کو لازمی سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں اگر قربانی نہ دی گئی تو Okee یا شیطان انہیں تمام ہرنوں، بڑکیز، اناج یا پھلی سے محروم کر دے گا اور پھر انہیں قتل کر دے گا۔ 'شیطان

کی تاریخ، بحوالہ ص: ۱۲، ۱۳]

سائنسی تحقیقات نے جب مختلف چیزوں کی حکمتوں اور علتوں تک رسائی حاصل کر لی تو بہت سے توہمات کی طرح شیطان کے وجود اور اس کی پرستش کو بھی ایک واہمہ قرار دے کر اسے مطلق طور پر نظر انداز کیا جانے لگا۔ جبکہ فلاسفہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس بات کی تائید کی کہ شر (بدی، نقصان، وغیرہ) کا کوئی خارجی وجود نہیں بلکہ یہ انسانوں کے اندر پنہاں برے خیالات و جذبات ہیں جن کے اظہار سے دنیا میں فتنہ و فساد رونما ہوتا ہے اور اس میں کسی خارجی ہستی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لہذا کائنات میں نہ کوئی شیطان نامی وجود ہے اور نہ کوئی خدا (معاذ اللہ)!

### شیطان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر

شیطان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ہمارے پاس مستند ذریعہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید میں لفظ 'شیطان' کم و بیش نوے (۹۰) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ لفظ جنات کے لیے استعمال ہوا، کبھی بد خصلت اور شریر النفس، انسانوں کے لیے اور کبھی ایک خاص وجود کے لیے۔ اسی طرح احادیث میں بھی یہ لفظ انہی معانی کے لیے بے شمار مواقع پر استعمال ہوا ہے۔

'شیطان' عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل عرب ہر اس چیز کو شیطان کہہ دیتے ہیں جو انتہائی سرکش اور باغی ہو خواہ وہ انسان ہو یا جن یا کوئی جانور وغیرہ۔ انسانوں کی نسبت جنات چونکہ زیادہ سرکش ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں ایک ایسے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو پہلے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا مگر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا کر کے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے یہ ثابت

کر دکھاؤں کہ ان کی اکثریت تیری نافرمان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ازراہ مصلحت اس کا یہ چیلنج قبول کیا اور اسے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔

اس 'جن' کے لیے قرآن مجید میں 'ابلیس' اور 'شیطان' کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ چونکہ اس نے قیامت تک زندہ رہنا ہے اور اتنی لمبی زندگی اللہ کی نافرمانی و سرکشی میں گزارنی ہے اس لیے اس سے بڑا سرکش اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہی عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور شیاطین کا ذکر بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے مثلاً سرکش جنات کو شیاطین کہا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اسے گمراہ کرنے اور برائی کی ترغیبات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس فرق کے پیش نظر ابلیس کو 'شیطان اکبر' کہنا زیادہ موزوں و مناسب ہے۔

### شیطان ایک خارجی وجود ہے

قرآن مجید کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ایک خارجی وجود رکھنے والی ذات ہے اور احادیث سے اس مفہوم کی مزید تائید و وضاحت ہو جاتی ہے مگر احادیث کے منکر اور قرآن کی من مانی تاویل کے ماہر عقل پرست شیطان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں۔ ان کے بقول شیطان اور ابلیس محض فرضی نام ہیں جو انسان میں پنہاں برے خیالات کی برائی اور شناعیت و قباحت بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طبقہ فکر کے سرخیل سرسید احمد خان ہیں۔ سرسید نہ شیطان اور جنات کے وجود کے قائل تھے اور نہ ہی وہ فرشتوں کے خارجی وجود کو تسلیم کرتے تھے بلکہ قرآن مجید میں مذکور معجزات کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان اشیاء کو انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔

لیکن اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین و جنات اور فرشتے کوئی خارجی وجود نہیں رکھتے تو قرآن مجید میں مذکور شیاطین و ملائکہ کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ

”انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوئی اور قوائے بیہمی کا ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں اور انسان کے فرشتے اور ان کی ذریعات اور وہی انسان کے شیطان اور ان کی ذریعات ہیں۔“ [تفسیر القرآن از سرسید ج: ۱ ص: ۴۲]

اسی فلسفہ کو مسٹر پرویز نے اس طرح اختیار کیا:

”ملائکہ سے مراد، فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں انسان جب چاہے مسخر کر سکتا ہے۔ لیکن ابلیس سے مراد اس کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیں تو انہیں شیطان یا ابلیس سے تعبیر کیا جائے گا۔“ [قصہ ابلیس و آدم ص: ۴۸]

اس پر طرہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اس خود ساختہ فکر کو عین قرآنی فکر باور کروانے کی کوشش کی حالانکہ قرآن مجید میں جا بجا شیاطین و جنات، فرشتوں اور انسانوں کو تین علیحدہ علیحدہ مخلوقات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنات کو اللہ کا رشتہ دار کہا کرتے تھے اور ان کے خیال میں یہ وجود رکھنے والی غیر مرئی مخلوقات تھیں۔ ان کے یہ خیالات قرآن مجید میں اس طرح بیان کئے گئے ہیں:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنۡثٰنًا﴾ [الزخرف ۱۹]

”اور انہوں (کفار مکہ) نے فرشتوں کو اناث (یعنی خدا کی بیٹیاں) مقرر کر دیا، حالانکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔ (اس کی بیٹیاں نہیں ہیں)“

﴿وَجَعَلُوۡا اٰیٰتِہٖۡنَا وَبَیِّنَاتِہٖۡنَا سُبُوۡلًا لِّقَدۡ عَلِمَتِ الْجِنَّۃُ اَنۡہُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَ﴾

”اور انہوں نے خدا اور جنات میں رشتہ مقرر کر لیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔“ [الصافات ۱۵۸، ۱۵۹]

اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید تو ضرور کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں اور جنات بھی اللہ کے رشتے دار نہیں ہیں لیکن ان کے علیحدہ وجود کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نفی نہیں فرمائی۔ حالانکہ اگر ملائکہ اور شیاطین خود انسان ہی کی داخلی قوتیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضرور وضاحت فرمادیتے کہ جنہیں تم جنات اور فرشتے سمجھتے ہو وہ خود تمہارے اندر ہی پنہاں قوتیں ہیں!!



ملائکہ کے بارے میں منکرین ملائکہ کے تمام شبہات کے رد کے لیے راقم الحروف کی کتاب "انسان اور فرشتے" ملاحظہ کی جاسکتی ہے، البتہ جنات و شیاطین کے بارے میں منکرین کی توجیہات و تاویلات اور ان کے اعتراضات کا کافی و شافی جواب سید مودودیؒ کی کتاب "تفہیمات" کے حوالے سے ہم تیسرے باب کے آخر میں پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ!

### شیطان اکبر، شیطان اصغر اور نفس انسانی

ابلیس تو وہ شیطان اکبر ہے جسے قیامت تک زندگی ملی ہوئی ہے جب کہ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان مقرر ہے جس کا تعلق شیطان اکبر کے ساتھ ہے اور یہ شیطان اکبر ہی کا کارندہ ہے۔ یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا مگر ہمارے دل میں برے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔

علاوہ ازیں خود انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں اچھے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور برے بھی۔ نیک جذبات بھی اٹھتے ہیں اور بد خیالات بھی۔ یہ انسان کو خیر کے لیے بھی ابھارتا ہے اور شر کے لیے بھی آمادہ کرتا ہے۔

مزید برآں اچھے خیالات کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرشتوں کی حفاظت وغیرہ سے مزید تقویت ملتی ہے جب کہ برے خیالات سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہی برے خیالات کا عملی اظہار فتنہ و فساد، حسد و کینہ، بغض و عناد، کفر و شرک، بغاوت و سرکشی، قتل و غارت گری وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے جس سے شیطان خوش اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے وہ شیطانی کام ہے۔

### شیطان کا مقصد پیدا کرنا

شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لے سکے کہ کون شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو انسان کو زبردستی ہدایت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور نہ ہی شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جبراً انسان کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جائے۔

## شیطان کی قوت و طاقت کی حقیقت

شیطان کی پرستش کا نظریہ اس بات پر قائم ہوا کہ شیطان جو چاہے نقصان برپا کر سکتا ہے حالانکہ یہ نظریہ ہی بدیہی طور پر غلط تھا۔ اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم و اذن سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر نہ ہو اس میں تندی آ سکتی ہے اور نہ پانی میں طغیانی۔ باقی رہا شیطان کی قوت و طاقت کا سوال تو اسے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے اسے مطلوبہ حد تک پورے ہتھیار بھی عطا کر دیے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو اسلحہ نہیں میں کیسے انسانوں کا مقابلہ کروں گا۔ شیطان کا یہ اسلحہ درج ذیل چیزوں پر مشتمل ہے:

- ۱۔ یہ انسانوں کو نظر نہیں آتا۔
- ۲۔ انسانوں کے دلوں میں برے خیال القا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
- ۳۔ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔
- ۴۔ برائی کو انسان کے لیے مزین کر سکتا ہے۔
- ۵۔ ہر جگہ آنے جانے کی بے پناہ قوت اور سرعت رفتار بھی اسے حاصل ہے۔

## شیطان سے بچاؤ کی تدابیر

دوسری طرف شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کو بھی مطلوبہ ہتھیار دیئے گئے ہیں جن کی نوعیت یہ ہے کہ:

- ۱۔ انسان کو شیطان کی دشمنی سے متنبہ کیا گیا۔
- ۲۔ شیطان کے مکر و فریب اور برے وسوسے سے بچاؤ کے لیے وظائف بتائے گئے۔
- ۳۔ جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان متعین ہے اسی طرح اس سے بچاؤ کے لیے ایک محافظ بھی فرشتے کی شکل میں ہر انسان کے ساتھ متعین کیا گیا ہے۔
- ۴۔ ہر برائی کے بارے میں صاف صاف آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ برائی ہے۔
- ۵۔ اور اس سے بچنے کے لیے اس کے دل میں خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کا خوف بھی پیدا کیا گیا ہے۔
- ۶۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ و استغفار کا راستہ بھی رکھا گیا۔

## فلسفہ خیر و شر اور شیطان کا کردار.....!

خیر کیا ہے اور شر کیا.....؟ یہ دو مستقل چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو.....؟ ان کی تعریف و تمیز کی بنیاد خواہش و عقل انسانی ہے یا فطرت و وحی خداوندی.....؟ ان کا خالق ایک ہی ہے یا دو الگ الگ.....؟ خیر و شر کے اظہار میں انسان اور شیطان کو بھی کچھ عمل دخل حاصل ہے یا نہیں.....؟؟

یہ وہ سوالات ہیں جو ہر دور میں فلاسفہ و حکما کے غور و فکر کا موضوع اور رائے زنی کا تحتِ مشق بنے رہے۔ اسلامی دور کے فرقہ ہائے ضالہ مثلاً قدریہ (معتزلہ) جبریہ وغیرہ نے بھی ان سوالوں کو اپنے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی اور اہلسنۃ والجماعۃ کے علمائے بھی اس پر روشنی ڈالی۔ یہ مسئلہ چونکہ زیر نظر کتاب سے ایک لحاظ سے گہرا تعلق رکھتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں راجح مختلف فلسفیانہ اذکار کا بالاختصار تجزیہ پیش کیا جائے اور آخر میں اہلسنۃ کے موقف کی ترجمانی کی جائے۔

### اضافی اقدار کا فلسفہ.....!

خیر و شر کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ..... ”خیر و شر دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز کی دو مختلف حالتیں ہیں جو باہم مل کر کسی چیز کو حسن بخشتی ہیں.....“ اسے ’اضافی و نسبی اقدار‘ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ”جس طرح پانی برودت کی وجہ سے برف یعنی ٹھوس اور سخت چیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہی برف، گرمی و حرارت کی وجہ سے پانی یعنی سیال اور نرم حالت اختیار کر لیتی ہے گویا چیز ایک ہی تھی مگر اس نے مختلف حالات میں اپنی صورت کو تبدیل کر لیا۔ اسی طرح جھوٹ کسی جگہ نیکی و خیر اور کسی جگہ بدی و شر ہوتا ہے مثلاً کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا خیر اور کسی کی جان لینے کے لیے جھوٹ بولنا شر ہے.....“

خیر و شر کے اس فلسفہ میں دراصل اشیا اور اخلاقیات کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اشیا کے بارے میں تو یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ ایک جگہ درست و فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اور وہی کسی اور جگہ اپنی افادیت کھودیتی ہیں مگر اخلاقیات کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی کیونکہ اخلاقیات کے دائرہ میں جو چیز اچھی ہے وہ ہر جگہ اچھی ہے اور جو چیز بری ہے، وہ ہر لحاظ سے بری ہے مثلاً حق و سچ، عدل و انصاف، امانت و دیانت ہر دور میں اخلاقِ حسنہ میں شمار ہوتی چلی آئی ہیں جب کہ اس کے برعکس جھوٹ و باطل، ظلم و بے انصافی، خیانت و بے وفائی وغیرہ کا شمار ہر دور میں اخلاقِ سیئہ میں کیا جاتا رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اخلاقِ حسنہ کو اخلاقِ سیئہ یا اخلاقِ سیئہ کو اخلاقِ حسنہ قرار دے دیا گیا ہو۔ حسن و قبح دو متضاد اخلاقی رویے ہیں جو تاقیامت متضاد ہی رہیں گے۔

باقی رہی یہ بات کہ جھوٹ اگر بری عادت ہے تو کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کیوں معقول خیال کر لیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہر قاعدے میں استثنائی صورتیں ہوتی ہیں اسی طرح اس میں بھی استثنایا پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے سچ بولنے پر ایک بے گناہ کی جان جاسکتی ہے اور جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو ایسی صورت میں دراصل اس شخص کو بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویوں کا ناگزیر سامنا ہوتا ہے، اگر وہ ایک رویے کو سامنے رکھے تو دوسرا مجروح ہوتا ہے اور دوسرا سامنے رکھے تو پہلے پرزد پڑتی ہے اور بیک وقت دونوں کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا تو ایسی صورت میں خیر یہی ہے کہ وہ ایسی راہ اختیار کرے جو سجا کم بری ہو۔

البتہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ بسا اوقات خیر سے شر اور شر سے خیر کے پہلو بھی نکل آتے ہیں۔ یعنی مجموعی طور پر ایک چیز شر ہوتی ہے مگر کسی وقت اسی میں سے خیر و بھلائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

نیت و ارادے کے معیار کا فلسفہ.....!

خیر و شر کے بارے میں ایک نظر یہ، یہ ہے کہ..... ”اس کا انحصار انسان کی نیت و ارادہ

پر ہے یعنی اچھی نیت سے انسان جو کچھ بھی کرے وہ خیر ہے، خواہ چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے، شراب پیے یا زنا کرے..... نیت اچھی ہو تو یہ سب خیر ہے۔ اور اگر نیت بری ہو تو سب کام برے ہیں خواہ کوئی شخص کسی محتاج کی مدد اور کمزور کا تعاون کرے..... صدقہ و خیرات کرے یا دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اس کی بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی کی جان بچانے کی نیت سے اس کے جسم کا چیر پھاڑ (آپریشن) کرے تو وہ خیر ہے اور اگر قاتل کسی کو مارنے کے لیے اس کا جسم زخمی کرے تو وہ شر ہے.....“

یہ فلسفہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اس میں خیر و شر کی ترازو خود ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ وہ کسی غریب کی مدد کی نیت سے امیر کے گھر ڈاکہ ڈالنے، مسجد بنانے کے لیے کس کی زمین پر قبضہ کر لینے، پیاس بجھانے کے لیے شراب پی لینے کو خود ہی درست قرار دے لیتا ہے خواہ اس طرح کرنے سے کسی پر ظلم ہو رہا ہو یا خدا کی نافرمانی، اسے اس سے کچھ غرض نہیں!!

پھر یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ ایک چیز کو ایک انسان تو خیر سمجھ رہا ہوتا ہے جب کہ دوسرا اسے شر قرار دیتا ہے۔ اس طرح خیر سمجھنے والا اسے پھیلانے کی اور شر سمجھنے والا اسے مٹانے کی کوشش کرے گا نتیجہ ہر انسان دوسرے سے الجھے گا اور سارا معاشرہ فتنہ و فساد کی تصویر بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر اور قاتل کی جو مثال دی جاتی ہے اس سے استدلال صریح طور پر غلط ہے اس لیے کہ ڈاکٹر تو ایک مریض کی جان بچانے کے لیے خود اس کی خواہش و مرضی کے مطابق یہ کام کرتا ہے جب کہ قاتل تو مقتول کی منشا و رضا کے خلاف اپنی شرارت طبع کی بنیاد پر اس کے جسم پر خنجر چلاتا ہے، اس لیے اس مثال سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔

لذت و مسرت کے معیار کا فلسفہ.....!

خیر و شر کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ..... ”جس کام سے انسان کو حقیقی و پائیدار لذت اور مسرت حاصل ہو وہ خیر کا کام ہے اور جس سے لذت و مسرت کی بجائے رنج و غم پیدا ہو، وہ شر ہے.....“

یہ نظریہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ایک ہی چیز کسی کے نزدیک باعث لذت ہے تو کسی کے نزدیک باعث رنج و آلم۔ مثلاً باجے گا جے، شور شرابا، موسیقی وغیرہ ایک شخص کے لیے مسرت کا سامان ہیں تو دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔

اسی طرح اجتماعی سطح پر بھی ایک چیز کسی معاشرے کے لیے راحت و فرحت کا ذریعہ ہوتی ہے اور وہی کسی دوسرے معاشرے کے لیے ہلاکت و بربادی کا سامان!

### مجموعی سود مندی کے معیار کا فلسفہ.....!

خیر و شر کے بارے میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ..... ”جس کام میں فرد اور معاشرہ دونوں کا مفاد ہو وہ خیر اور جس میں دونوں کا نقصان ہو وہ شر ہے اور جہاں کہیں فرد اور معاشرے کے مفاد میں ٹکراؤ واقع ہو جائے تو ایسی صورت خیر دہ ہوگی جو معاشرے کے مفاد میں ہو.....“

یہ فلسفہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے قرین قیاس ہے مگر مطلق طور پر اسے بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا مثلاً اگر معاشرے کی اکثریت بدکاری، شراب، جوئے، سود اور دیگر برائیوں کو اپنے لیے مفید قرار دے لے تو پھر یہ ساری چیزیں ’خیر بن جائیں گی، حالانکہ اصولی طور پر یہ خیر نہیں ہیں!

### عقل اور وحی کے معیار کا فلسفہ.....!

خیر و شر کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ..... ”فطرتی طور پر انسان کے شعور میں خیر و شر کو ودیعت کر دیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت خیر کو بھی از خود اچھی طرح پہچان لیتی ہے اور شر کو بھی.....“

اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ، یہ بھی ہے کہ..... ”انسان فطرتی طور پر نہ خیر کے بارے میں جانتا ہے اور نہ شر کے بارے میں، بلکہ وحی الہی کے ذریعے جس چیز کو اس کے لیے خیر کہہ دیا جائے وہ خیر اور جس کو شر قرار دے دیا جائے وہ شر ہے.....“

یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، اگر ان دونوں کو اکٹھا نہ کیا جائے تو ان پر الگ الگ بہت سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں البتہ اگر ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر خیر و شر

کے بارے میں بہت سے عقدے کھل جاتے اور گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ اب اس کی تفصیلات آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے:

### خیر و شر کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا حاصل

قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے اور دوسری بات یہ کہ گردش ایام کے ساتھ انسان حالات و واقعات سے متاثر یا مرعوب ہو کر جب شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے تو اس کی رہنمائی اور خیر کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں اور نبی و رسول دنیا میں بھیجتے ہیں۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں کی بات ہی خیر ہوتی ہے۔ خواہ ساری دنیا ان کی مخالفت پر ہی کیوں نہ اتر آئے!

خیر و شر کا انسانی فطرت میں ودیعت یا الہام کئے جانے کی دلیل کے لیے درج ذیل آیات پر غور کیا جاسکتا ہے:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس ۷۷-۸۱]

”قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی۔ پھر (ہم نے) اس کو سمجھ دی برائی کی اور سچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، وہ ناکام ہوا۔“

﴿الَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [البقرہ ۲۵۸]

”کیا ہم نے اس کی دوا نکھیں نہیں بنائیں؟ اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے؟)“

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الدھر ۳۱]

”ہم نے انسان کو سیدھی راہ دکھادی اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا“

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم ۳۰]

”اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے“

اللہ تعالیٰ کی اس فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان بلا تفریق، اسلام اور توحید کی

فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر معاشرتی ماحول اور غلط تربیت وغیرہ اس کی اس فطرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:

((کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهود دانہ او ینصرانہ او یمجسانہ))

[بخاری: کتاب الجنائز: باب ما قبل فی اولاد المشرکین: حدیث (۱۳۸۵)]

”ہر نوجوان مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین (اگر یہودی ہوں) تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں (عیسائی ہوں تو) عیسائی بنا لیتے ہیں (اور مجوسی ہوں تو) مجوسی بنا لیتے ہیں۔“ اسی طرح قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

”اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور انہیں خود اپنے اور پرگواہ بنا کر پوچھا: ”کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟“ وہ (ارواح) کہنے لگیں: کیوں نہیں! ہم یہ شہادت دیتے ہیں (اور یہ اس لیے کیا) کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔“ [الاعراف: ۱۷۲]

گویا تو حید باری تعالیٰ کا قرار انسان کی فطرت ہی میں شامل کر دیا گیا اور یہی توحید سب سے بڑی خیر ہے۔ جب کہ اس کے مقابلہ میں سب سے بڑا شر ’شُرک‘ ہے جو غلط تربیت سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کی اس فطرتی خیر کو شر سے بدل دیا جائے۔ وہ اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا؟ اس کا جواب ہمیں صحیح مسلم میں حضرت عیاضؓ سے مروی ایک حدیث سے ملتا ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وانی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتہم الشیاطین فاجتالہم عن دینہم

وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی لم انزل بہ سلطانا.....))

”بے شک میں نے اپنے بندوں کو شرک سے پاک (یعنی دین فطرت پر) پیدا کیا ہے پھر ان کے پاس شیطان آئے جنہوں نے انہیں ان کے دین سے برگشتہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ شیطانوں نے ان کے لیے حرام کر دیں اور



شیطانوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ میرے ساتھ شرک کریں، جب کہ اس شرک کے حق میں، میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔“ (حدیث: ۲۸۶۵)

ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ خیر و شر کو اصولی طور پر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان کی اگر یہ فطرت کسی وجہ سے مسخ یا متاثر نہ ہوگی، تو وہ خیر اور شر میں شعوری طور پر امتیاز کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی کرتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ برائی کو بھی برائی ہی سمجھ کر کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہی برائی خود اس انسان کے ساتھ کی جائے تو یہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ہماری اس بات کی تائید قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے بھی ہوتی ہے:

﴿وَنِيلَ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُرِّيَّتَهُمْ يُخْسِرُونَ الْإِيظُنَّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ [المطففين ۳ تا ۴]

”بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد نئے کا خیال نہیں!“

گویا انسان بخوبی یہ بات سمجھتا ہے کہ ناپ تول میں کمی ایک برائی یعنی شر ہے اور شریر الطبع انسان اپنے مفاد کے لئے دوسروں کے ساتھ اس شر کا ارتکاب تو کر لیتا ہے، مگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اس کا ارتکاب کیا جائے!

### انبیاء و رسل اور وحی ہدایت

جس طرح ہر انسان میں خیر و شر کے امتیاز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اسی طرح انہیں شر سے بچانے اور خیر پر گامزن کرنے کے لیے ہر دور میں اپنے نبی اور رسول بھی بھیجے، ان پر اپنی کتابیں اور صحائف نازل کئے، اور ان کی طرف اپنا پیغام ہدایت بھیجا تا کہ وہ لوگوں پر یہ واضح کر سکیں کہ اے اہل دنیا! جن چیزوں کو تم نے خیر سمجھ کر سینے سے لگا رکھا ہے وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ شر ہے جسے تم نے جہالت، نادانی، ہرکشی، یا کسی اور ایسے سبب سے اپنا رکھا ہے اور خیر تو وہ ہے جو وحی کی صورت میں اللہ

تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہے تاکہ ہم تمہیں اس سے آگاہ کریں۔ اور جو ہماری بات مان کر ایمان لے آئے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا اور جو انکار کرے گا وہ ناکام ہو کر خسارہ اٹھائے گا۔

یہ ہے خلاصہ اس چیز کا جو انبیاء و رسل اور آسمانی صحائف کے حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے تاہم بطور دلیل ہم ایک آیت پیش کئے دیتے ہیں:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“ [الحمدید: ۲۵]

یہ سلسلہ رشد و ہدایت خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ ہو چکی ہے۔ اب قرآن و حدیث ہی خیر و شر کا سب سے بڑا اور قطعی معیار ہے، جو اس معیار پر پورا اترے وہ خیر اور جو اس پر پورا نہ اترے وہ شر ہے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں اشارہ ملتا ہے:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ [محمد: ۲۰۱]

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد کریمؐ پر نازل کی گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین) بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔“

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔“ [آل عمران: ۸۵]

## خیر و شر کے خالق کا مسئلہ

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ خیر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن شر کو کس نے پیدا کیا.....؟ اس کے متعلق نہ صرف غیر مسلم فلاسفہ میں بلکہ مسلمان متکلمین میں بھی اختلاف رہا ہے جبکہ مجوسیوں کا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے خالق جدا جدا ہیں ان کے بقول خیر کے خالق کا نام 'یزداں' اور شر کے خالق کا نام 'اہرمن' ہے۔

خیر و شر کے دو الگ خالق تسلیم کرنا کسی طرح بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے موافقت نہیں رکھتا کیونکہ خالق ایک ہی ہے دو ہرگز نہیں اور پھر عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس لئے کہ اگر دو الگ الگ خالق ہوں تو پھر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ایک کہے گا کہ میں نے رحمت نازل کرنا ہے دوسرا کہے گا نہیں میں نے عذاب نازل کرنا ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ [اس موضوع کی تفصیلات راقم کی کتاب "انسان اور خدا" میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں (زیر تالیف)]

تاہم یہ سوال پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شر جس کے وجود سے مجال انکا نہیں، اس کا خالق کون ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے تو اس سے کہیں سوئے ادبی تو لازم نہیں آتی کہ اللہ کی طرف 'شر' کی نسبت کی جا رہی ہے! اور اگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں تو پھر بھی یہ سوال موجود ہے کہ آخر 'شر' کس نے پیدا کیا؟ اور آخر اللہ نے اس کی موجودگی کو کیسے برداشت کر لیا.....؟؟

ایک فلسفی نے اس عقیدہ کو اور پیچیدہ بنانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ:

"اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو وہ (خدا) خیر مطلق نہیں ہو سکتا اور اگر شر خدا کی مرضی کے علی الرغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلا سکتا!"

[دیکھئے کتاب التقدير از پرویز (ص ۱۲۲) پرویز کے بقول یہ بات طامس ایکو نیس

Thomas Aquinas کی طرف منسوب کی جاتی ہے]

شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے چونکہ سوئے ادبی کا اظہار ہوتا تھا اس لیے

قدریہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ انسان بذات خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ وہ اچھا کرے یا برا، اسے ہر لحاظ سے کامل اختیار حاصل ہے، حتیٰ کہ وہ خود ہی اپنے افعال کا خالق ہے۔ [تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: "شرح عقیدۃ الطحاویہ" ص ۴۰] قدریہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ تقدیر کچھ نہیں بلکہ انسان ہی سب کچھ ہے، وہی انسان خیر پیدا کرتا ہے اور وہی شر کو وجود میں لاتا ہے، البتہ بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ خیر تو خدا پیدا کرتا ہے مگر شر کو انسان وجود بخشتا ہے۔ اسی طرح کی رائے کا اظہار امین احسن اصلاحی صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”رہ گیا یہ سوال کہ کیا خیر و شر دونوں کا خالق ایک ہی ہے یا ان کے الگ الگ خالق ہیں؟ اگر خیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے تو اس سے کائنات میں شمولیت لازم آتی ہے اور اگر خدا ہی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے تو خدا جب خیر مطلق ہے تو وہ شر کا خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اوپر کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اختیار و ارادہ کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا میں شر پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اختیار کو خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اس کو بدی کے لیے بھی بروئے کار لاسکتا ہے۔ یہ کائنات جن طبیعی قوانین پر قائم ہے، ظاہر ہے کہ وہ خالق کے لحاظ سے موجب خیر ہیں لیکن ان کے علم یعنی سائنس کو انسان کی خدمت میں بھی لگا دیا جاسکتا ہے اور مہلک ہتھیار بنا کر انسان کی تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، چھری، پھل، کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے لیکن اس سے دوسرے انسان کو ہلاک بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ ایٹمی طاقت کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کریں یا اس کی تباہی کے لیے۔ اگر آپ ایٹمی طاقت کو انسانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے اور نسل انسانی کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اختیار کا غلط استعمال ہوگا۔ چونکہ اختیار و ارادہ کی آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہی نعمت تو اس کا درجہ حیوانات سے بلند کر کے اسے منصب خلافت پر فائز کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اختیار کی آزادی سے پیدا ہونے والے شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو سراسر خیر ہے۔ یہ انسان کی نالائقی ہے کہ وہ اختیار کا

غلط استعمال کرتا ہے اور شرکا باعث بنتا ہے۔ [المیزان (ص ۲۰۴، ۲۰۵) مقالہ: "خیر

وشر کا مسئلہ" از امین احسن اصلاحی]

لیکن اس پر پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اختیار کی طاقت جس کے غلط استعمال سے شر پیدا ہوا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پھر اس سے جو شر پیدا ہوا وہ بھی تو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ پھر بذات خود انسان جو "شرکا باعث بنتا ہے" اسے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر قسم کی خلق کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ثابت ہوتا ہے تو پھر پہلے ہی قرآن کے بقول یہ تسلیم کیوں نہ کر لیا جائے کہ:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ۱۶]

"تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔"

شر اللہ نے پیدا کیا ہے یا انسان کا سوائے اختیار اسے پیدا کرتا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں شر، ضرر، مصیبت وغیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور بعض میں انسان کی طرف کی گئی ہے، جس سے ایک طرف ان آیات میں ظاہری طور پر تعارض کی شکل پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف مذکورہ بالا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف کیا ہے؟ اس کی ترجمانی عقیدۃ طحاویۃ کے شارح نے بڑی تفصیل و عمدگی کے ساتھ اس کتاب کی شرح میں کر دی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ:

"و افعال العباد ہی خلق اللہ و کسب من العباد" [ص ۳۳۸]

"انسانوں کے افعال، فعل ہونے کے اعتبار سے انسانوں ہی کے ہوتے ہیں مگر خلق

کے اعتبار سے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔"

اسے آپ یوں سمجھئے کہ بدکاری اور گناہ وغیرہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ نہیں کرتا بلکہ

بندے کرتے ہیں مگر یہ چیزیں پیدا تو اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہیں۔

اب اس پر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں یا بالفاظ دیگر انسان میں جو گناہ کی

خواہش اور اختیار کے غلط استعمال کا محرک پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا اور کون کرتا ہے؟

کیا اس میں اللہ کا اذن یا مرضی شامل ہے یا نہیں؟؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آزمائش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان میں خواہشاتِ نفس پیدا نہ کر دی جاتیں اور انہیں اچھے یا برے مقصد میں استعمال کرنے کا اختیار نہ سونپ دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات بھی پیدا کیں اور ان کے اچھے یا برے استعمال کا اختیار بھی انسان کو دے دیا مگر اس کے باوجود اپنی مرضی بھی بتادی کہ..... میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرو، خواہشات کو میری رضا کے تابع کرو، اچھائی و بھلائی کی راہ اختیار کرو۔ اور اس کے بدلہ میں، میں تمہیں جنت کی دائمی نعمتوں سے نواز دوں گا..... اس کے ساتھ تاکید مزید کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ میری نافرمانی و حکم عدولی گناہ ہے، گناہ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اس کی سزا دنیوی اتری اور اخروی عذاب کی شکل میں تمہیں ضروری جائے گی۔ اسی آزمائش اور امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ۲۰:۱]

”بہت بابرکت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے؟“

واضح رہے کہ فلسفہ خیر و شر کے سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے بھی بڑی زوردار بحثیں اپنے فتاویٰ میں جا بجا کی ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب اس موضوع پر تیار ہو جائے۔ شیخ الاسلام چونکہ اہلسننہ کے موقف کے نمائندہ و ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے اس بحث کے آخر میں ان کے فتاویٰ سے ایک مختصر و جامع بحث مذکورہ مسئلہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔

خیر و شر اور شیطان کا کردار.....؟

قرآن وحدیث میں شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بالعموم اس لیے نہیں کی گئی کہ اس

سے کہیں اللہ کے بارے میں کوئی سوئے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ اس احتمال کے پیش نظر کہیں شر، ضرر اور مصیبت وغیرہ کو انبیاء کرام نے اپنی طرف اور کہیں شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں شر پھیلے، خیر ختم ہو اور لوگ شر کے ارتکاب سے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ شر اور اس سے متعلقہ صورتوں کی نسبت انسان ہی کی طرف یا شیطان کی طرف کئے جانے سے متعلقہ چند آیات درج ذیل ہیں:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾

”اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا (بھی) ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔“ [ص-۳۱]

﴿فَأَنبَى نَسِيئَتِ الْخَوَاتِ وَمَا أَنبَىٰهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الکہف-۶۳]

”حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام کہنے لگے کہ (بھی) میں تو پھل بھول گیا تھا اور دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔“

﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکارا جس سے وہ مر گیا تو موسیٰ کہنے لگے: یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔“ [القصص-۱۵]

﴿وَبِنَاظِلْمَنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”حضرت آدم علیہ السلام نے کہا) اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“ [الاعراف-۲۳]

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشوریٰ-۳۰]

”اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔“

﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾

”تمہیں جو بھلائی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے

اپنے نفس کی طرف سے ہے۔“ [النساء: ۷۹]

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز تہجد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے:

((وجهت وجهی للذی ..... والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک))

[مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ النبی و دعا نہ باللیل (۷۷۱)]

”اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے۔“

مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں شر کی نسبت اللہ کی بجائے خود انسان یا شیطان کی طرف کرنے کا مقصد ادب الہی کا لحاظ ہے ورنہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان شر کا خالق بن گیا ہے بلکہ حقیقی طور پر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ انسان خیر و بھلائی کی راہ اختیار کرے اور شر کی راہ اختیار نہ کرے۔ تاہم دنیا میں جو شر پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ گویا اذن الہی اور رضائے الہی میں یک گونہ فرق ہے۔ اس کی تائید میں بھی بہت سی آیات اور احادیث پیش کی جاسکتی ہیں تاہم بغرض اختصار ایک ہی آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

”اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے (اے نبی!) آپ کہہ دیجئے! کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔“ [النساء: ۷۸]

مذکورہ بالا آیت میں قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔

امین احسن اصلاحی صاحب کا ابلیس کی موت کا دعویٰ!

اصلاحی صاحب یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا، علیحدہ وجود رکھتا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار اور زہنی آدم کو گمراہ کرنے کا



مشن اس نے سنبھالا..... مگر وہ یہ نہیں مانتے کہ یہی ابلیس تا قیامت زندہ رہے گا جیسا کہ موصوف رقمطراز ہیں کہ

”یہ خیال کہ وہی شیطان جس نے حضرت آدم کو دھوکا دیا تھا، ابھی تک زندہ ہے اور وہی انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، بالکل بچکانہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو اجازت مانگی تھی وہ اپنے مشن کو قائم رکھنے کی اجازت تھی تاکہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کر سکے اور یہ ثابت کر دے کہ خدا کی پیروی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ جاہل تھے کہ اور تیرے پیروؤں کو اجازت دیتا ہوں کہ انسان کو گمراہ کرو اور جو تیری پیروی کریں گے خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں صالحین اور ابرار بھی ہیں اور شیاطین بھی، جو قانون تمام جنات پر لاگو ہے وہی ابلیس پر بھی ہوگا۔ جب جنات ابدی مخلوق نہیں تو ان کا ایک فرد ابلیس کیسے ابدی ہو سکتا ہے۔ اس لیے شیطان کوئی ابدی مخلوق نہیں۔ لہذا مسمویت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔“ [المیزان (ص ۲۰۷) ایضاً]

مذکورہ اقتباس میں ابلیس کی موت کے حوالے سے جو نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے، وہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی سراسر محل نظر ہے اس لیے کہ اول تو جس بنیاد پر یہ سارا فلسفہ قائم کیا گیا ہے، وہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے یعنی یہ بنیاد کہ..... ”ابلیس کو زندہ ماننے سے مسمویت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔“..... حالانکہ ابلیس کے زندہ ہونے سے مسمویت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مسمویت تو یہ ہے کہ خیر کی ساری طاقتیں ایک ذات کے پاس ہیں اور شر کی ساری طاقتیں دوسری ذات کے پاس۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ تو ہے مگر مسلمانوں کا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک ہر چیز کا خالق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس کا حکم برازن ہو تو دنیا میں عذاب، نقصان، تباہی و مبادی آتی ہے ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی!

اسی طرح اصلاحی صاحب کا ابلیس کی موت ثابت کرنا کسی محکم دلیل پر مبنی نہیں بلکہ محض ایک مفروضے پر مبنی ہے جو یہ ہے کہ..... ”جب جنات ابدی مخلوق نہیں تو ان کا ایک فرد ابلیس کیسے ابدی ہو سکتا ہے؟“..... ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا بالکل

ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی یہ تھی کہ ایسا ہو چنانچہ شیطان نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ [الاعراف/ ۱۲]

”وہ (شیطان) کہنے لگا: ”مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جا تجھ کو مہلت دی گئی“

شیطان ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مشن کو قیامت تک مہلت دے دے بلکہ اس مشن کے لیے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں خیر و شر کی ایک کشش رکھ دی ہے، جبکہ مذکورہ آیت سے معلوم ہو رہا کہ شیطان ابلیس نے خود زندہ رہنے کی مہلت مانگی ہے تاکہ وہ خود لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور یہ بات ابلیس نے ان الفاظ میں اللہ کے حضور کہہ بھی دی تھی کہ:

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَنبَهُمْ مِنْ بَيْنِ

أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

”جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے لہذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان (کو گمراہ کرنے) کے لئے بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، بائیں سے، غرض کہ ہر طرف سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔“ [الاعراف/ ۱۶-۱۷]

انہی آیات کے ضمن میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے عمومی انداز میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ:

﴿إِنَّهُ يَرَأَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الاعراف/ ۲۷]

”بلاشبہ وہ (شیطان ابلیس) اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔“

اب اگر وہ ابلیس زندہ نہیں رہا تو پھر ہمیں وہ کیسے دیکھتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندگی ملی ہے۔ البتہ باقی شیاطین کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں شیطان ابلیس بھی انسانی

شکل میں لشکر کفار کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ اگر وہ ابتدائے آفرینش سے جنگ بدر تک زندہ رہ سکتا ہے تو کیا بعید ہے کہ وہ بعد میں بھی زندہ رہے! علاوہ ازیں یہ بات یاد رہے کہ ابلیس ہی اپنی ذریت اور لشکروں کو پوری دنیا میں شتر پھیلانے کے لیے روانہ کرتا ہے اور ان کی نہ صرف نگرانی بھی کرتا ہے بلکہ پوری پوری راہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ اس کی صراحت درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: شیطان اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے اپنے لشکر (لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے) اس کے نزدیک اس کے لشکر میں سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں ایک فوجی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں (فتنہ و برائی) کا کام کر کے آیا ہوں۔ شیطان کہتا ہے: تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ پھر شیطان اس شخص کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاہاش! تم نے واقعی ایک بڑا کام کیا ہے۔“

[مسلم: کتاب صفات المنافقین: باب تحریش الشیطان وبعثہ سراہاہ..... (۲۸۱۳)]

ایک روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ لشکر ابلیس روانہ کرتا ہے، تاکہ کوئی اور۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

((ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث سراہاہ یفتنون الناس فأعظمهم عندہ

اعظمهم فتنة)) [مسلم: ایضاً]

”بلاشبہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنوں سے دوچار کریں۔ اور ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اسے حاصل ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے“

لہذا ابلیس کے تاقیامت زندہ رہنے کے تصور کو کسی طرح بھی بچکانہ خیال قرار نہیں دیا جاسکتا!

## فلسفہ خیر و شر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ

شیخ موصوف سے سوال کیا گیا کہ..... ”اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ”خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر شیطان کی طرف سے ہے اور یہ کہ ”شر خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے تو شر کا ارتکاب کرے اور چاہے تو نہ کرے۔“ جب اس کے اس نقطہ نظر کی تردید کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الاعراف/۲۸] ”اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔“ اور ﴿وَلَا يَهْدِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر/۷] ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔“

اس بنیاد پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر شر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر انسان چاہے تو شر پیدا ہوتا ہے (ورنہ نہیں) اور وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ شر کے بارے میں مجھے پورا اختیار (مشیت) حاصل ہے، میں چاہوں تو شر کا ارتکاب ہو سکتا ہے (ورنہ نہیں) کیا انسان کو یہ مشیت (اختیار) حاصل ہے یا نہیں؟

شیخ موصوف نے اس کا جو جواب دیا وہ درج ذیل ہے:

شیخ فرماتے ہیں کہ اس بحث سے پہلے دو باتیں بطور مقدمہ مد نظر رکھنا ضروری ہیں:

(۱) پہلی تو یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمالِ حسنہ کو پسند کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے کو عزت و تکریم سے نوازتے ہیں، انہیں ثواب اور اپنی دوستی عطا کرتے ہیں اور ان سے راضی ہوتے اور محبت کرتے ہیں اور یہ نیک اعمال بجالانے والے بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے وہ لشکر ہیں جن کی نصرت کی گئی اور جنہیں غلبہ عطا کیا گیا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے متقی دوست اور کامیاب ہونے والا گروہ ہے اور یہی اس کے نیک جنتی بندے ہیں۔ انہی میں سے انبیاء، اصدقا، شہداء، اور صلحاء ہوئے ہیں اور یہی صراطِ مستقیم پر

گامزن رہے ہیں۔ وہ صراطِ مستقیم جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا یا جو گمراہ ہو گئے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفر و فسق، معصیت و نافرمانی وغیرہ جیسے اعمالِ سیئہ کے ارتکاب سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمالِ سیئہ کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی۔ بلکہ ان پر تو اللہ تعالیٰ لعنت اور غضب فرماتے ہیں اور انہیں سزا دیتے اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں، یہی شیطان کے دوست ہیں۔ یہی جہنمی اور بد بخت ہیں۔ تاہم ان میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کافروں اور فاسقوں کے بین بین ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر گناہ کا مرتکب کافر و فاسق ہی ہو۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی رب اور خالق نہیں ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ ہونے نہیں سکتا۔ اس کے اذن و توفیق کے بغیر نہ کچھ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے بچا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں جائے پناہ نہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ ذات رکھنے والی اشیاء ہوں یا ان کی صفات و حرکات ہوں، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اسی کی تقدیر و مشیت کی پابند ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قدرت و طاقت سے باہر ہو اور اس کے افعال و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں بلکہ وہی سبحانہ و تعالیٰ ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ انسان ہر چیز میں اس کا محتاج ہے اور لہجہ بھر کے لیے بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی پھر ہدایت بھی عطا نہیں کر سکتا۔

مذکورہ بالا دو بنیادی باتوں کے بعد اب ہم اصل بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے مدد کا مطالبہ کرے تو

اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس کام پر مدد فرماتے ہیں اور اسے سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں اور یہی چیز اس بندے کی دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رسوا کر دیں تو وہ نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ اس سے مدد طلب کرتا ہے اور نہ ہی اس پر توکل کرتا ہے۔ چنانچہ پھر اس بندے کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے چنانچہ شیطان اس سے دوستی لگا لیتا ہے اور اسے سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور وہ دنیا و آخرت کے لحاظ سے بد بخت ٹھہرتا ہے۔

گویا (خیر و شر) ہدایت و ضلالت کے حوالے سے) جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس تقدیر سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا اور نہ ہی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے کوئی تجاوز کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ:

﴿اللَّهُ الْمُسَوِّطُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الانعام ۱۳۶]

”آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے مقابلے میں اللہ کی محبت کامل ہے لہذا اگر وہ چاہتا تو

تم سب کو ہدایت دے دیتا۔“

گویا ہر طرح کی خوش بختی اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہر طرح کی بد بختی اس کے عدل کا اظہار ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے اور اللہ کے خلاف الزام تراشی نہ کرے، تقدیر پر ایمان لے آنا ہی ہدایت ہے جبکہ اس کے ذریعے اللہ کے خلاف حیل و حجت کرنا گمراہی و بد بختی ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا انسان کو صابر و شاکر بناتا ہے اس طرح انسان مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرتا ہے۔ کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے چنانچہ اس پر وہ اللہ کا شکر بجالاتا ہے خواہ وہ نعمت انسان کو خود اپنے کسی اچھے کام کے نتیجے میں ہی کیوں نہ حاصل ہوئی ہو اور اس نے اس کے لیے کتنی ہی تکد و دد کیوں نہ کی ہو لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اسے اچھے کام کی توفیق عطا کی ہے اور اس کے نتیجے میں اسے انعام و ثواب سے نوازا ہے، اس لیے اس ساری کد و کاوش پر اللہ ہی کی تعریف کی جانی چاہئے۔ (اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ) جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اگرچہ یہ

مصیبت کسی اور شخص کے ہاتھوں ہی کیوں نہ پہنچی ہو۔ لیکن اسے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے مسلط کیا تھا! یا انسان ہی اگر ایسے کام کرتا ہے (جس کے نتیجہ میں اسے شر و مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے) تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ أَضَلَّ مِنْ مُصِيبَةٍ لِي الْأَرْضِ وَلَا لِي أَنْفُسِكُمْ الْأَبِيُّ كَيْبٌ مَنْ قَبْلَ أَنْ يُرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الہد: ۲۲: ۲۳]

”کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں ہے (اور یہ بات بلاشبہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ جو تمہیں نزل سکے اس پر تم غم نہ کرو اور جو اللہ تمہیں دے اس پر فخر نہ کرو۔“

اہل علم کا کہنا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر وہ اس مصیبت پر راضی ہو کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو اس پر استغفار اور توبہ کرے اور تقدیر کے بہانے اللہ کے خلاف جھٹیں قائم نہ کرنا پھرے اور یہ نہ کہے کہ یہ گناہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا اور مجھے اسی کے ارتکاب پر مجبور کر دیا تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انسان ہی گنہگار و نافرمان ہے۔ اگرچہ اللہ نے اس کی تقدیر میں ارتکاب گناہ لکھا تھا اور اللہ کے اذن ہی سے اس کا ارتکاب ہوتا ہے مگر اس کے باوجود انسان کے ارادہ و اختیار سے یہ ہوا ہے، انسان خود حرام کھاتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج اور جہاد کرتا ہے، گویا یہ تمام افعال انسان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وہی یہ سارے کام کرتا ہے، اس کے کرنے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کی سزا انسان ہی کو ملے گی (کیونکہ وہ قائل ہے) جبکہ دوسری طرف یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے (انسان خالق نہیں) اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ اور مشیت نافذہ کے اظہار کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا ضَيْرَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِكَ﴾ [خافز ۵۵]  
 ”میر کرو، بلاشبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اپنے گناہ پر معافی مانگو۔“ لہذا بندے کو چاہیے  
 کہ وہ مصائب پر صبر اور گناہ پر استغفار کرے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے حیائی کا حکم نہیں دیا، اس کے کفر و فسق اور فتنہ و فساد کو اللہ  
 پسند نہیں کرتا، اگرچہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے  
 اس کی فشا کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور  
 جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی یہ  
 ارادہ و اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خیر کی راہ اختیار کرے یا چاہے تو شر کا ارتکاب کرے۔  
 اسے خیر کی بھی قوت حاصل ہے اور شر کی بھی، وہ خیر کے کام بھی کرتا ہے اور شر کے کام  
 بھی، جبکہ ان تمام کاموں اور چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے سوا نہ  
 کوئی خالق ہے اور نہ کوئی اور رب، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے اذن کے بغیر  
 کچھ نہیں ہوتا!

اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایک مشیت (یعنی ارادہ و اختیار) اللہ تعالیٰ کا ہے  
 اور ایک انسان کا۔ البتہ انسان کا ارادہ و اختیار اللہ کے ارادہ و اختیار کے تابع ہے جیسا کہ  
 درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے:

۱- ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الرحمہ ۲۹:۳۰]

”یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف (جانے  
 والا) راستہ اختیار کرے اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اللہ یقیناً سب کچھ  
 جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔“

۲- ﴿إِنَّ هُوَ الْأَذْكَرُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ  
 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التکویر ۲۷:۲۹]

”یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھا چلنا  
 چاہتا ہو اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔“



۳۔ ﴿إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ [النساء، ۷۸: ۷۹]

”جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں آ ہی لے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ”یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے“ اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ ”یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے“ آپ (ان سے) کہتے کہ ”سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے“ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔“

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس تیسری آیت میں حسنات اور سیئات سے مراد اطاعت اور معصیت ہے اور اس پر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ حسنات اللہ کی طرف سے اور سیئات انسان کے نفس کی طرف سے ہیں حالانکہ یہ دونوں گروہ اس آیت کو سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ اس آیت میں حسنات اور سیئات سے مراد انعامات اور مصائب ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں اس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے:

﴿وَيَذَلُّونَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الاعراف، ۱۶۸]

”یعنی ہم خوشی اور تنگی کے ساتھ ان کا امتحان لیں گے، شاید وہ لوٹ آئیں۔“

مذکورہ بالا آیت (نمبر ۳) میں منافقین کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں کوئی اچھائی مثلاً نصرت، رزق، عافیت وغیرہ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب انہیں کوئی مصیبت مثلاً سفر، دشمن کا خوف، بیماری وغیرہ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: اے محمد! یہ تیری وجہ سے ہے، کیونکہ تو ایسا دین لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور ہمیں ان ان مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ لَمَّا نُنزِّلُ الْغَاسِقَ﴾ [النساء ۷۸]

”آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔“

(اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا) (اے نبی!) آپ تو انہیں تنگی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، آپ کو نصرت، رزق، صحت و عافیت وغیرہ کی عمل میں جو نعمیں ملتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں اور آپ کو قحطی، عاجزی، خوف اور بیماری وغیرہ کی صورت میں جو برائی پہنچتی ہے وہ تو آپ کے گناہوں وغیرہ کی وجہ سے پہنچتی ہے جیسا کہ کئی اور آیات میں اس کی وضاحت اس طرح مذکور ہے:

۱۔ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ﴾ [الشوریٰ ۳۰]

”اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے۔“

۲۔ ﴿وَلَمَّا أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ﴾ [النساء ۷۸]

”جہاں تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آگئی؟ حالانکہ اس سے

دو گنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ (اے نبی! آپ) کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت

تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔“ [آل عمران ۱۶۵]

۳۔ ﴿وَلَن نُّصِيبَهُمْ مُّصِيبَةً بِغَافِلَتٍ آيَاتِهِمْ لَئِنِ الْإِنْسَانُ شَاكُورٌ﴾ [الشوریٰ ۱۶۷]

”اور اگر ان کی برائیوں کے سبب کوئی تکلیف انہیں پہنچے تو انسان ناشکرا (یعنی

ثابت ہوا) ہے۔“

لہذا انسان کو جب اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ

خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی

ہر پریشانی میں کشادگی کی راہ پیدا فرمادیتے ہیں اور اس کی ہر تنگی میں نکلنے کا راستہ کھول

دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں

ہوتا اور واضح رہے کہ گناہوں کی مثال زہر کی طرح ہے۔ یعنی جب انسان زہر

کھاتا ہے تو اس سے بیمار ہوتا یا مر جاتا ہے تو گویا زہر کھانے والا خود انسان ہے جو بیماری

اور تکلیف سے دوچار ہوتا اور مرتا ہے جبکہ زہر سمیت ان ساری چیزوں (یعنی بیماری،

موت وغیرہ) کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور انسان اس زہر کو کھانے کی وجہ سے بیمار ہوا اور اسے کھا کر اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے اور اگر وہ اس سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند تریاق استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت بھی عطا کر دیتے ہیں۔

اسی طرح گناہوں کی مثال بھی زہر جیسی ہے اور ان گناہوں کا تریاق تو بہ و استغفار ہے اور انسان چونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج و فقیر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو تو انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے سوال کرتا اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار سنتے اور دعا قبول فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ إِذَا مَأْتَلَكَ عَبْدًا عَمَىٰ فَلْيُنَبِّئْهُ فَأَنَّ يَأْتِيَ قَرْبًا أُجِيبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾ [البقرة ۱۸۶]

”اور جب میرے بندے آپ سے میرے محتلق پوچھیں تو (کہیے) میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجالائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔“

لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ انسان کو نہ خیر کا اختیار ہے نہ شر کا، وہ جھوٹ بولتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ انسان اللہ کی حکمت و اذن کے بغیر جو کچھ چاہے کر سکتا ہے وہ بھی غلط کہتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خیر و شر میں ہر چیز کا اختیار حاصل ہے لہذا انسان کا یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت و قدرت کے تابع ہے لہذا اللہ دونوں صورتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ اوامر و نواہی کو بھی تسلیم کیا جاسکے اور ان کے نتیجہ میں جنت کے وعدے اور جہنم کی وعیدیں بھی تسلیم کی جائیں۔ اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لایا جاسکے، بلکہ اس بات پر بھی ایمان حاصل ہو سکے کہ انسان کو جو مصیبت پہنچی ہے اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں اور جو نہیں پہنچی اسے کوئی اور پہنچا نہیں سکتا۔“..... [مجموع الفتاویٰ (ج ۸ ص ۱۳۳ تا ۱۳۶) طبع جدید]

## باب اول (۱)

## شیطان کیا ہے؟..... ایک تعارف!

## شیطان کے کہتے ہیں؟

’شَیْطَانٌ‘ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اہل عرب ہر اس چیز کو ’شَیْطَانٌ‘ بولتے ہیں جو سرکش اور باغی ہو۔ خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی جانور۔ (۱) یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں بھی یہ لفظ (شیطان) سرکش و باغی انسانوں اور جنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الانعام ۱۱۲]

”اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔“ اسی طرح عہد نبوی میں جو منافق و سرکش لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شَیْطَانِینَ کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَیْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ﴾ [البقرة ۱۳۶]

”جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب وہ اپنے بڑوں (سرکش سرداروں) کے پاس جاتے ہیں تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں (اور) ان سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔“

مجموعی طور پر انسانوں کے مقابلے میں جنات چونکہ زیادہ سرکش مخلوق ہے اس لیے لفظ شیطان کا زیادہ استعمال جنات کے لیے کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے

(۱) [ملاحظہ ہو: لسان العرب، بذیل مادہ ’شطن‘]

لیے جنات اللہ تعالیٰ نے مطیع فرمان کر رکھے تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفْضُلُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذُلُوكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِيظِينَ﴾

”اسی طرح بہت سے شیاطین (جنات) بھی ہم نے ان (یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام) کے تابع کیے تھے جو ان کے حکم سے (سندر سے موتی نکالنے کے لیے) غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے۔“ [الانبیاء ۸۲]

اسی طرح وہ جنات جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسمانوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیر اور کائنات سے متعلقہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور ان پر شعلے برسائے جاتے، انہیں بھی قرآن مجید میں شیاطین کہا گیا ہے مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَوْجَنَا نَاهِبِينَ فَحَرَ سَابِقِينَ وَأَنزَلْنَا نَارًا تَلْقَوْنَ أَهْلًا مَّقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَنُنذِرُ الْبِغْيَ الْأَشْرَارِ يُدْ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن ۱۰ تا ۱۸]

”ہم نے آسمان کو ٹوٹ کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں سے پر پایا، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاگ میں پاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کیسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا سرکش، نافرمان اور خدا کا باغی چونکہ شیطان اکبر یعنی ابلیس ہے اس لیے یہ لفظ سب سے زیادہ ابلیس ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

### انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین

انسانی شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہیں تو ہماری طرح کے انسان، مگر سرکش و بغاوت اور راہ حق سے دوری کی وجہ سے ان کے تمام اعمال شیطان اکبر کی رضامندی کے مطابق اور نشائے خداوندی کے خلاف وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرہ ارض پر جبر و ستم کا جو مظاہرہ آج امریکہ کر رہا ہے اس کی بنا پر لوگ اسے ’بزرگ شیطان‘ (یعنی شیطان اکبر) کہہ رہے ہیں۔

اگر ظلم و سرکشی کا یہی مظاہرہ شیطان صفت انسانوں کی بجائے جنات کریں تو وہ جناتی شیاطین ہیں۔ ایسے ہی شیطان صفت انسانوں اور جنوں کے لیے سورہ انعام میں شیاطین الانس والجن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

### مومن جن اور شیطان جن

چونکہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح بعض نیک صالح اور مومن جن ہوتے ہیں اور بعض سرکش، باغی، نافرمان اور کافر، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا زَحْدًا وَآمَنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن - ۱۴-۱۵]

”ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں۔ پس جو فرماں بردار ہو گئے، انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔“  
اس لیے تمام جنات کو شیاطین نہیں کہا جاسکتا بلکہ جنات میں جو انتہائی سرکش، شریر اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، اسے شیطان کہا جائے گا۔

### جنات اور شیطان اکبر

شیطان اکبر (یعنی ابلیس) جس کا تذکرہ قصہ آدم و ابلیس میں ایک فرد کی حیثیت سے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان ہوا ہے، اس میں اور جنات میں کیا فرق ہے؟  
اس سوال کا جواب بالاختصار یہ ہے کہ ابلیس جنات ہی کی جنس سے تعلق رکھتا ہے مگر اس نے اللہ کی نافرمانی و سرکشی کی راہ اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی۔ اب اس کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے جب کہ وہ بذات خود مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا نام ہی شیطان رکھ دیا گیا۔ اور مسلمان نہ ہونے کی بنا وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت سے ناامید ہو گیا ہے، اس لیے اس ناامیدی کی وجہ سے اسے 'ابلیس' (یعنی ناامید) بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور شیطان کو بھی آگ ہی سے پیدا فرمایا۔

جنات کے آگ سے پیدا ہونے کی دلیل یہ آیات ہیں:

۱۔ ﴿وَوَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ﴾ [الرسم: ۱۵]

”اور جنات کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا ہے۔“

۲۔ ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ۱۷]

”اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے خالص آگ سے پیدا کیا۔“

۳۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: فرشتے نور سے اور

جنات آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور حضرت آدم ﷺ کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے

جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ (یعنی مٹی سے) (۱)

معلوم ہوا کہ جنات اور ابلیس کی جنس ایک ہی ہے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام

پر اس بات کی صراحت ہے کہ ابلیس جنات میں سے ایک جن تھا اور شاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ أَذْنَبْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اَنْ يَّسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِيسَ كَانَ مِنَ الْجٰنِّ فَفَسَقَ

عَنْ اَمْرٍ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ۵۰]

”اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ میں گرجاؤ آدم کے سامنے ہو سب

سجدے میں گر پڑے ماسوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا سو اس نے اپنے رب

کے حکم سے عدول کیا۔“

### جنات کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو پھر ان

میں سے گنہگاروں کو عذاب کس چیز سے دیا جائے گا؟ کیونکہ جہنم کی آگ کا عذاب تو

انہیں کچھ تکلیف نہیں دے گا کیونکہ وہ تو خود آگ ہیں؟

اس کے اگرچہ بہت سے جواب دیئے گئے ہیں تاہم میں اس کا مناسب جواب یہ

کہتا ہوں کہ گنہگار جنات جہنم میں جائیں گے اور انہیں عذاب دینا اللہ کی قدرت کاملہ

سے کچھ بعید نہیں۔ البتہ اس عذاب کی کنز و حقیقت ہم نہیں جانتے!

(۱) [مسلم: کتاب الزہد: باب فی احادیث متفرقة: رقم الحدیث (۲۹۹۶)]

## شیطان اکبر کہاں رہتا ہے؟

شیطان اکبر (ابلیس) سے مراد وہ جن ہے جو سب سے بڑا سرکش اور خدا کا نافرمان ہے، جس نے حضرت آدم عليه السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس نے نسل انسانی کو گمراہ کرنے اور قیامت تک زندہ رہنے کی تمنا کی تھی اور وہ بارگاہ الہی سے پوری کی گئی۔ اس لیے بنیادی طور پر ہر انسان کا اصل دشمن یہی شیطان اکبر (ابلیس) ہے۔ مگر یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اس کا اڈہ پانیوں پر ہے جہاں سے یہ اپنے چیلوں اور لشکروں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار اگر کوئی بڑا مشن ہو تو خود بھی میدان میں آجاتا ہے، تاہم زیادہ تر اس کا کام 'نگرانی' ہے جیسا کہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاء فادناہم منه منزلة اعظمہم فتنة یجیء احدہم فیقول: فعلت کذا وکذا فیقول: ما صنعت شیئا قال: ثم یجیء احدہم فیقول: ما ترکہ حتی فرقت بینہ و بین امرأته قال: فیدنیہ منه ویقول: نعم: انت))<sup>(۱)</sup>

”شیطان اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے اپنے لشکر (لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے۔) اس کے نزدیک اس کے لشکر میں سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں ایک فوجی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں (فتنہ و برائی) کا کام کر کے آیا ہوں۔ شیطان کہتا ہے: نہیں! تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ پھر شیطان اس شخص کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاہاش! تم نے واقعی ایک بڑا کام کیا ہے۔“ ایک روایت میں اس طرح ہے:

((ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث سرایاء یفتون الناس فاعظمہم عنده اعظمہم فتنة))

(۱) [مسلم: کتاب صفات المنافقین: باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاء ..... (۲۸۱۳)]



”بلاشبہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنوں سے دوچار کریں۔ اور ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اسے حاصل ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرے“ (۱)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ابن صیاد (مدینے کے کاہن) سے پوچھا:

﴿ مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ : تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى ؟ قَالَ أَرَى صَادِقِينَ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبِينَ وَصَادِقًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ عَلَيْهِ دَعْوَةٌ ﴾ (۲)

”تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں پانی پر عرش کو دیکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تو سمندر پر ابلیس (شیطان) کا عرش دیکھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول ﷺ نے پوچھا اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں بہت سے سچوں اور ایک جھوٹے کو یا بہت سے جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا: اس پر (معاملہ) مشتبه کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔“

### شیطان اکبر کے مددگار کون ہیں؟

شیطان اکبر اگرچہ اکیلا ہی ساری انسانیت کا دشمن ہے مگر اس کے ساتھ اس کے بہت سے مددگار بھی چیلے چانٹوں کی شکل میں موجود ہیں۔ شیطان چونکہ جنات میں سے ہے اس لیے اس کے زیادہ تر چیلے چانٹے جنات ہی سے ہیں اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جنات ہی اس کے لیے زیادہ موزوں بھی ہیں کیونکہ یہ بغیر دکھائی دیئے انسان کے دل میں دوسو ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر اس لیے بھی کہ ان میں بذات خود سرکشی کا عنصر انسان کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں اس کی اپنی ذریت بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ شیطان اکبر انسانوں سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ شیطان صفت انسانوں سے بھی دوسرے انسانوں کے خلاف بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ ان شاء اللہ!

(۱) [مسلم: ایضاً] (۲) [مسلم: کتاب الفتن: باب ذکر ابن صیاد (۲۹۲۵)]

احمد (۴۶۷/۳) ابن حبان (۱۷۸/۱۵) مشکل الآثار (۳۸۳/۷) شرح السنة (۴۵۳/۷)

شیطان اکبر کے مددگار لشکروں کے بارے میں جس طرح پیچھے مذکور صحیح مسلم کی حدیث سے وضاحت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے:

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْطَفَ مِنْهُمْ بَصُوتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتَهُمْ وَمَا يَعْلَمُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوزًا﴾

”ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے (لشکر) چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد سے اپنا بھی سا جھا لگا اور انہیں (جھوٹے) وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب، سراسر فریب ہیں۔“ [الاسراء: ۶۴]

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ۵۰]

”جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ (ابلیس) جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں (اسے دوست بنانے والے ظالم لوگ ہیں اور) ایسے ظالموں کا کیا ہی برابر ہے۔“

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مریم: ۸۳]

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں (کی مدد کے لیے ان) کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں (گمراہی و نافرمانی) پر خوب اکساتے ہیں۔“

### شیطان اکبر اور ہر انسان کا شیطان

شیطان اکبر (ابلیس) کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟..... یہ تو بالاختصار واضح ہو چکا ہے کہ وہ جنات میں سے سب سے بڑا سرکش اور خدا کا نافرمان ہے۔ ہر انسان کو گمراہ کرنا اس کا ’میشن‘ ہے، مگر وہ ہر انسان کے ساتھ نہیں رہتا اور نہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے البتہ

سمندروں کے پانیوں پر اس کا 'اڈہ' ہے اور اس کی اولاد اور دیگر سرکش جنات اس کے مددگار اور اعوان و انصار ہیں۔

اب یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے اور یہ شیطان ابلیس نہیں بلکہ کوئی سرکش جن ہوتا ہے جو شیطان اکبر ہی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمہ وقت انسان کے تعاقب میں رہتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے فوراً اپنا وار کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ وار جسمانی اذیت کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ ارتکاب گناہ اور خدا کی نافرمانی کی کسی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ اور ان سے بچاؤ کی کیا کیا تدبیریں ہیں؟ یہ تفصیلات آئندہ صفحات میں آرہی ہیں ان شاء اللہ! باقی رہا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کی موجودگی کا مسئلہ تو اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((ماننکم من احد الا وقد وكل الله به قرينه من الجن قالوا وایک یارسول الله؟ قال: وایای، الا ان الله اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر))<sup>(۱)</sup>

”اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن کو ساتھی (ہمزاد) بنا کر مقرر کر رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرے رب نے اس کے مقابلہ میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ مجھے خیر و بھلائی کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیتا۔“

۲۔ مسلم ہی کی دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں:

”ہر ایک کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ (ہمزاد) ساتھی بنا دیا گیا ہے۔“ (ایضاً)

۳۔ ان روایات میں 'جن' کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد شیطان ہی ہے کیونکہ ان دونوں کی جنس ایک ہی ہے اور جو 'جن' انسان کو برائی پر اکساتا ہے وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے شیطان کہلاتا ہے۔ اسی لیے بعض اور روایات میں 'جن' کی جگہ شیطان کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

(۱) [مسلم: کتاب صفات المنافقین: باب تحریش الشیطان وبعثہ سراہاہ..... (۲۸۱۴)]

ایک رات اللہ کے رسول ﷺ مجھے چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے، تو مجھے اس پر غیرت آگئی اور میں بھی آپ کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ (آپ بقیع کے قبرستان میں گئے تھے اور میں آپ کو دیکھ کر جلدی جلدی واپس بھاگ آئی) آپ واپس آئے اور میری (سانس پھولنے کی) کیفیت دیکھی تو فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں غیرت آگئی تھی؟ میں نے کہا: بھلا، مجھ جیسا آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا: ”اقد جاءک شیطانک؟ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! امعی شیطان؟ اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے کہا: ومع کل انسان؟ کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے کہا: کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا: نعم، ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرے رب نے اس کے مقابلہ میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان (ہمزاد) مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بالعموم ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتا ہے اور جب موقع ملتا ہے انسان کے دل میں برا دوسوہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ سے پناہ مانگے تو یہ اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر یہ اس پر تسلط جمانے اور اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾

”اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔“ [الزخرف ۳۶]

کیا شیطان، مسلمان ہو سکتا ہے؟

شیطان اکبر (ابلیس) کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر وہ

مسلمان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ البتہ شیطان اکبر کے علاوہ دیگر شیطان، جو انسانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے اور ان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی شیطان مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اختلاف ہے جیسا کہ عمر سلیمان الاشرق رقم طراز ہیں کہ ”شیطان اکبر جو ابلیس ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کفر ہی پر قائم رہے گا۔ البتہ اس کے علاوہ کوئی اور شیطان مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اس مسئلہ میں یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ دیگر شیطان مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا تھا مگر بعض علماء اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان مومن نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے شارح طحاویہ بھی ہیں (دیکھئے ص ۴۳۹) انہوں نے لفظ ’فاسلم‘ کی توجیہ ’استسلم‘ سے کی ہے یعنی وہ مطیع و فرمانبردار ہو گیا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ اس روایت کا یہ لفظ ’فاسلم‘، میم کے پیش کے ساتھ ہے جس کا معنی ہے: ”میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہوں“ اگرچہ شارح طحاویہ کا خیال یہ ہے کہ پیش والی روایت کے لفظ میں تحریف ہے لیکن امام نووی نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ: ”یہ دونوں روایتیں (زیر اور پیش کے ساتھ) مشہور ہیں۔ امام نووی نے امام خطابی کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ انہوں نے پیش والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اور قاضی عیاض سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے زیر والی کو اختیار کیا ہے اور خود نووی نے بھی زیر ہی کو اختیار کیا ہے۔ (دیکھئے: شرح نووی ۱۵۸/۱۷۱)

جن لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان مسلمان ہو سکتا ہے ان میں ابن حبان بھی ہیں۔ وہ اس حدیث پر ترمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ کا ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور وہ آپ کو صرف بھلائی کا حکم دیتا تھا اور اگر وہ کافر تھا تو آپ اس سے محفوظ رہتے تھے۔“

شارح طحاویہ کی بات محل نظر ہے کہ شیطان کافر ہی ہوتا ہے، اگر ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان صرف کافروں کو کہتے ہیں تو یہ درست ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ شیطان

اسلام کی طرف نہیں پلٹ سکتا تو یہ بعید تر بات ہے اور یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ اور ہمیں کافی ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان مومن تھا پھر اس نے کفر کیا اور یہ کہ تمام شیاطین (کافر جن) بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو انہیں عذاب دیا جائے گا۔ گویا جنات و شیاطین پر بھی ایمان و کفر کی دونوں حالتیں اسی طرح طاری ہوتی رہتی ہیں جس طرح انسانوں پر ہوتی ہیں۔“ (۱)



(۱) [”عالم الجن والشیاطین“ از عمر سلیمان الاشرق (ص ۶۳، ۶۴)]

## باب دوم (۲)

## نفسِ امارۃ، لوامۃ، مطمئنۃ اور شیطان!

## نفسِ انسانی کی مختلف حالتیں:

لفظِ نَفْس اور اَلنَّفْس کا استعمال 'روح' (جان) دل، ذات (وجود) کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح اسے اَکْرَف کی فتح کے ساتھ پڑا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا: سانس، جھونکا، گنجائش، مہلت اور کشادگی و فراخی۔<sup>(۱)</sup>

روح (جان) کے لیے لفظِ نفس کے استعمال کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿اٰخِرِ جُوْا اَنْفُسِكُمْ﴾ [الانعام ۲۲]

”فرشتے کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو۔“

دل کے لیے لفظِ نفس کے استعمال کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿وَ اِنْ تُبَدُوْا مٰفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ یُحٰسِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُ﴾ [البقرۃ ۲۸۳]

”تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔“

﴿وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مٰفِیْ اَنْفُسِكُمْ فَاٰخِذُوْہُ﴾ [البقرۃ ۲۳۵]

”جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے (لہذا) تم اس سے ڈرتے رہو“

اور ذات کے لیے لفظِ نفس کے استعمال کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿فَقُلْ تَعٰلَوْا نَدْعُ اٰبَآءَ نَا وَاٰبَآءَ کُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ کُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَکُمْ

ثُمَّ فَبَہِلْ فَتَجْعَلْ لَّنٰہُ اللّٰہِ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ﴾ [آل عمران ۶۱]

”تو آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ آؤ! ہم اور تم اپنے فرزندوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خاص

اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا (مہلبہ) کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی

لعنت ڈالیں۔“

(۱) [المنجد بذیل مادہ 'نفس']

انسان کے دل میں طبعی طور پر اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، خیالات کی انہی مختلف حالتوں کی طرف قرآن مجید میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے:

﴿وَمَا أُبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [یوسف ۵۳]

”میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے ہی۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔“

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القیلۃ ۲۰۱]

”میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔“

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس ۷ تا ۱۰]

”قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی۔ پھر (ہم نے) اس کو سمجھ دی برائی کی اور سچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، وہ ناکام ہوا۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفرج ۲۷ تا ۳۰]

”اے اطمینان والے نفس (روح)! تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی (ہے اور وہ) تجھ سے خوش۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں (بھی) داخل ہو جا۔“

گویا یہ تین علیحدہ علیحدہ نفس یا دل / ضمیر وغیرہ نہیں بلکہ ایک ہی نفس (دل) کی مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی دل میں اچھے خیالات آتے ہیں اور کبھی برے۔ کبھی برائی کرنے پر نفس ابھارتا ہے تو کبھی تقویٰ اور للہیت کی وجہ سے ملامت بھی کرتا ہے۔

اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نفس کا لفظ مذکورہ بالا آیات میں ’دل‘ کے معنی و مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے اور کسی شخص میں ایک سے زیادہ دل نہیں رکھے گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:



﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ [الاحزاب ۴۷]

”کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔“

نفس انسانی کی ان تین مختلف حالتوں کے بارے میں وضاحت کے لئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں: ”میرے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ دوران سفر کھانا کھانے کے لئے ہمیں ایک ہوٹل میں رکننا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم نے پیسوں کی ادائیگی کے لئے بل دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئے اس لئے کہ اتنا ہم نے کھایا نہ تھا جتنا کہ بل ظاہر کر رہا تھا۔ بہر صورت ہم نے پیسے ادا کیے اور ہوٹل سے چل دیئے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرارت سوچھی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں میں بیت الخلاء سے ہو کر ابھی پہنچ رہا ہوں۔ دراصل ہوٹل کے بیت الخلاء میں بڑی قیمتی اور نفیس ٹوٹیوں کا اہتمام کیا گیا تھا اور ان کے اوپر دستیاں بھی نہایت عمدہ تھیں۔ چنانچہ میں نے وہاں سے ڈرتے ڈرتے کچھ دستیاں اتاریں اور اپنی جیبوں میں چھپا کر واپس چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا یہ کارنامہ دوستوں کو بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا تھا چنانچہ کچھ دور جانے کے بعد میرا ضمیر مجھے اس فعل پر ملامت کرنے لگا، چنانچہ میں نے کم و بیش بیس کلومیٹر کے فاصلے سے گاڑی واپس موڑی اور خود ہی اس ہوٹل میں جا کر وہ چیزیں جہاں سے اتاریں تھیں وہاں ہی لگا دیں۔ اس کے بعد میرا ضمیر بالکل مطمئن ہو گیا۔“

اس سارے واقعہ میں نفس انسانی کی تینوں حالتیں موجود ہیں یعنی پہلی حالت وہ جس میں نفس نے برائی پر اہار اور ایک غلط کام کا ارتکاب کر دیا۔ (اسے نفس امارہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) دوسری حالت وہ جس میں اسی نفس نے اس بُرے فعل پر ملامت کی۔ (اسے نفس لوامہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) اور تیسری حالت وہ جس میں مذکورہ جرم کے خاتمہ کے بعد اسی نفس نے اطمینان و سکون محسوس کیا۔ (اسے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) واللہ اعلم!

دل سوچتا ہے یا دماغ؟

جدید سائنس کی رو سے دل کا کام سوچنا نہیں بلکہ خون کی گردش کو کنٹرول کرنا ہے

جب کہ دماغ کا کام سوچنا ہے۔ مگر قرآن وحدیث میں خیالات کا منبع دل ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا  
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الاعراف ۱۷۹]

”ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور جن پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل تو ہیں مگر یہ ان سے (حق کو) سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر یہ اس سے (راہ ہدایت) دیکھتے نہیں اور ان کے کان تو ہیں مگر یہ اس سے (قول حق) سنتے نہیں۔“

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا  
فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج ۳۶]

”کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

بعض لوگوں نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ دل اور دماغ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ فہم وادراک کے سلسلہ میں یہ دونوں حصہ لیتے ہیں اس لیے یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے کہ غور و فکر اور عقل و شعور کا محل دل ہے یا دماغ! باقی رہی یہ بات کہ قرآن وحدیث میں غور و فکر کی نسبت پھر دل کی طرف ہی ہر جگہ کیوں کی گئی ہے تو اس کا جواب بعض اہل علم نے یوں دیا ہے کہ

”قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ یہاں خواہ مخواہ ذہن اس سوال میں نہ الجھ جائے کہ سینے والا دل کب سوچتا ہے۔ ادبی زبان میں احساسات، جذبات، خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی چیز کے ”یاد ہونے“ کو بھی یوں کہتے ہیں کہ ”وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے۔“ (۱)

ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ غور و فکر کا محل، دماغ کو قرار دینے والے سائنس دان بھی آج تک اس چیز کی تعین نہیں کر سکے کہ دماغ کا کون سا حصہ غور و فکر کا فریضہ

(۱) [تفسیر ”تفہیم القرآن“ از مولانا مودودی (۲۳۶/۳)]

انجام دیتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی نسبت جو دل کی طرف کی ہے وہ محض ادبی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ حقیقی لحاظ سے کی ہو اور ہمارا فہم ابھی تک اس کی حقیقت کا ادراک نہ کر سکا ہو۔ واللہ اعلم!

### خیالاتِ دل اور شیطان کا کردار

انسان کے دل میں اچھے اور برے خیالات انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہیں۔ انسان کی پیدائش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھائی اور نیکی اصل قرار پاتی ہے اور اگر اس کے جذبات کے لحاظ سے غور کیا جائے تو برے خیالات اصل قرار پاتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اچھے ماحول میں پیدا ہو کر تربیت پائے تو اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور اگر برے ماحول میں پیدا ہو کر تربیت پائے تو پھر برے خیالات اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی بات کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

((كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودونه او ينصرانه او يمجسانه))<sup>(۱)</sup>

”ہر نوزاد مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین (اگر یہودی ہوں) تو اسے یہودی

بنادیتے ہیں، (عیسائی ہوں تو) عیسائی بنا لیتے ہیں (اور مجوسی ہوں تو) مجوسی بنا لیتے ہیں۔“

جب کہ عقل و شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب انسان کی خواہشات نفس اور جذبات بیدار ہوتے ہیں تو پھر یہ جذبات و خواہشات، انسان کو برائی و سرکشی اور من مانی پر ابھارتے ہیں۔ اگر خوف خدا یا خوف سزا (قانون دنیوی) وغیرہ مانع ہو تو انسان ان جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے ورنہ ان کا اسیر بن جاتا ہے۔ انسان کے انہی جذبات و خیالات اور خواہشات نفس سے اس کا دشمن شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو برائی پر بہت جلد آمادہ کر لیتا ہے۔ بلکہ اگر کہیں ظاہری طور پر کسی برائی کا موقع موجود ہو تو شیطان پوری شدت سے برے وسوسے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، برائی کو اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کرنے میں اسے لذت کا احساس دلاتا ہے، پھر بار بار اس برائی پر ابھارتا رہتا ہے حتیٰ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برائی انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ مثلاً جس شخص کو شراب اور نشہ کی لت پڑ جائے اس کے لیے اس

(۱) [بخاری: کتاب الحنائن: باب ما قبل فی اولاد المشرکین (۱۳۸۵)]

کے بغیر زندہ رہنا مشکل بن جاتا ہے.....، جسے عشق و محبت کا روگ لگ جائے، اس کے لیے اس کے بغیر وقت گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے.....، اور جسے ظلم و جبر اور فتنہ و فساد برپا کرنے کا جنون ہو جائے، اسے اس وقت تک اطمینان نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس کا عملی اظہار نہ کر لیا کرے..... یہ اگرچہ انسان کی کمزوریاں ہیں اور انہیں پیدا بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ شیطان کو گمراہی پھیلانے اور اپنا مشن پورا کرنے کا پورا پورا موقع ملے مگر اس کے باوجود شیطان انسان پر زبردستی نہیں کر سکتا۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انسان کو بھی اس کمزوری سے بچنے اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے مواقع دیے گئے۔ مثلاً اول تو اس کا دل ہی ایسا بنایا جس میں گناہ پر ملامت کا احساس بھی پوری طرح پیدا ہو جاتا ہے، خیر و بھلائی کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے پھر روم یہ کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو بہ واستغفار اور شیطان سے بچنے کے لیے تعویذ کے کلمات صدق دل سے ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کے مقابلہ میں خود اس انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر سوم یہ کہ جس طرح ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ برے خیالات پیدا کرنے کے لیے مقرر ہے اسی طرح ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت اور اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا کرنے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتے کی اسی کشمکش کو درج ذیل حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

((ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكنيب بالحق واما لمة الملك فايعاد بالخير وتصليق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليعوذ بالله من الشيطان الرجيم))<sup>(۱)</sup>

”ابن آدم پر شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں برائی اور حق کی تکذیب ڈالتا ہے اور فرشتہ اس طرح اثر

(۱) [ترمذی: کتاب تفسیر القرآن: باب ومن سورة البقرة (۲۹۸۸) امام ترمذی نے اس روایت کو ’حسن صحیح‘ قرار دیا ہے]

انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھائی اور حق کی تصدیق ڈالتا ہے۔ لہذا جس کے ساتھ یہ (فرشتے والا معاملہ ہو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جس کے ساتھ دوسرا یعنی شیطان والا) معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔“

### کیا فرشتے اور شیاطین دل کے خیالات جانتے ہیں؟

فرشتوں کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ وہ دل کی بات جانتے ہیں یا نہیں لیکن راجح موقف یہی ہے کہ فرشتے انسان کے دل کے خیالات جانتے ہیں یہی تو وہ نیت و ارادے پر بھی ثواب لکھتے ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح یہ سوال کہ شیطان بھی انسان کے خیالات سے آگاہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟

تو اس کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کو ان خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کی قوت نہیں دی گئی۔ اگرچہ اس سلسلہ میں ابن صیاد (کاہن) سے متعلقہ درج ذیل حدیث سے اس کے منافی ایک اور بات کا اشارہ بھی ملتا ہے:

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عِنْدَ أُطَمِ بَنِي مَعَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يُشْعِرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ ..... إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ الدُّخُّ ؛ فَقَالَ إِخْسًا فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تَسْلُطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ﴾<sup>(۲)</sup>

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کچھ صحابہ کے ہمراہ جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے، ابن صیاد کی طرف نکلے، وہ بنو مغالہ کے محلے میں بچوں

(۱) [اس کی مزید تفصیل راقم کئی کتاب "انسان اور فرشتے" میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے]

(۲) [بخاری: کتاب الحناظر: باب اذا اسلم الصبی فمات ..... (۱۳۵۴) مسلم (۲۹۳۰)]

احمد (۹۱/۲ - ۱۹۸ - ۴۶۷/۳ - ۴۳۲۹) ابوداؤد (۴۳۲۹) ترمذی (۲۲۴۹) ابن حبان (۶۷۸۵)

شرح السنة (۴۱۶۵) مشکل الآثار (۳۹۳/۷)

کے ساتھ کھیل رہا تھا اور خود بھی ابھی بلوغت کے قریب تھا۔ اسے بالکل علم نہ ہوا حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے جھنجھوڑا اور پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ”امتین“ کے رسول ہیں پھر اس (ابن صیاد) نے کہا: کیا آپ ﷺ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ﷺ نے اسے دھکا دیا اور کہا میں تو اللہ اور اس کے (سچے) رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ میں نے اپنے دل میں (کیا) چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا ”دھواں“ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو ذلیل درسا ہو جائے تو اس سے تجاویز نہیں کر سکتا (آپ ﷺ نے دل میں سورۃ ”الدخان“ سوچ رکھی تھی جس کا معنی دھواں ہے) عمرؓ نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ ﷺ نے فرمایا: (عمر!) اگر یہ دجال ہے تو اس پر مسلط نہیں ہو سکتا (بلکہ اسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے) اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔“

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ابن صیاد کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے اپنے دل میں فلاں بات سوچ رکھی ہے؟ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کے پاس چونکہ شیاطین آیا کرتے تھے اس لئے شیاطین نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آپ نے اپنے دل میں کیا بات سوچ رکھی ہے۔ لیکن اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین کو اس کا کیسے علم ہو گیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات کی ہو جسے شیاطین نے سن لیا ہو اور آ کر ابن صیاد کو بتا دیا ہو! (واللہ اعلم!)

### شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟

شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ اس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جانتے البتہ اس کی وسوسہ اندازی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ کو جو تعوذ

کھایا گیا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

﴿مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُلُوبِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

”(اے نبی! آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں) دوسرے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے

(خواہ) وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔“ [الناس-۶۲۳]

’وسوسہ‘ مخفی آواز کو کہتے ہیں چونکہ شیطان نہایت مخفی اور غیر محسوس انداز میں دوسرے ڈالتا ہے اس لیے شیطان کو ’وسواس‘ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر جنگل مارے ہوئے ہے، جہاں یہ بھولتا یا غافل ہوتا ہے وہاں فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

اس کے علاوہ درج ذیل احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی پوری استطاعت رکھتا ہے:

۱۔ حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں آپؐ اعتکاف فرماتے تھے کہ وہ آپ کے پاس گئی اور عشاء کے وقت کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد واپسی کے لیے کھڑی ہوئی تو آپؐ بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ (تاکہ انہیں گھر چھوڑ آئیں) جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچیں جہاں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کا حجرہ تھا تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور آپؐ کو سلام کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آپؐ نے ان (کو بلایا اور ان سے) فرمایا: آرام سے جاؤ، یہ (میری بیوی) حضرت صفیہؓ ہے۔ وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! اللہ پاک ہے۔ (آپ کی بابت ہمیں بھلا کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟) گویا آپؐ کی یہ بات ان پر بڑی گراں گزری لیکن آپؐ نے فرمایا:

ان الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما<sup>(۲)</sup>

(۱) [تفسیر ابن کثیر، بذیل تفسیر سورۃ الناس]

(۲) [بخاری: کتاب الادب: باب التکبیر والتسبیح عند التعجب (۶۲۱۹) مسلم (۲۱۷۵)]

”شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس سے مجھے خوف ہوا کہ کہیں

وہ تمہارے دل میں کوئی شہہ روسوسہ نہ ڈال دے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے تبھی تو آپ نے ان دو صحابیوں کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں تاکہ ان کے دل میں شیطان کوئی اور شہہ نہ پیدا کر دے۔ اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ..... ”شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے“..... بعض لوگ ان کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح خون اس وقت تک جسم میں گردش کرتا رہتا ہے جب تک زندگی قائم ہے، اسی طرح موت تک شیطان بھی انسان کے تعاقب میں رہتا ہے، فی الواقع انسان کے خون میں شامل نہیں ہو جاتا۔

شیطان کا انسان کے تعاقب میں رہنا تو پہلے ہی اس کی ذمہ داری اور مشن ہے اس لیے یہ تاویل بھی اگرچہ یہاں مراد لی جاسکتی ہے مگر اس کے ساتھ اس کے حقیقی معنی کو نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان حقیقی طور پر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل راقم الحروف کی کتاب ”عاملوں، کاهنوں، جادو گروں اور ایذاء دینے والے جنات کا پوسٹمارٹم“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول:

من خلق ربك؟ فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته))<sup>(۱)</sup>

”شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر (اس کے دل میں) کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ اور فلاں فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بندے کی یہ حالت ہو تو اس کو چاہیے کہ تعوذ پڑھے اور (مزید غور و فکر) سے رک جائے۔“

(۱) [بخاری: کتاب بدء الخلق: باب صفة ابليس و جنوده (۳۲۷۶) مسلم: کتاب

الایمان: باب بیان الوسوسة فی الایمان (۱۳۴)]



ایک روایت میں ہے کہ ”لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا: اس مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب وہ یہ کہیں تو اس کے جواب میں کہو:

﴿اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

”اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔“

پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھکا کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔“ (یعنی تعوذ پڑھے) (۱)

۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز سن سکے۔ اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آجاتا ہے لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہو جاتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آجاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔“ (۲)

۴۔ حضرت سبرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھتا ہے چنانچہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے: کیا تم اسلام کی خاطر اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین و مذہب چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کی خاطر اپنا وطن اور اپنا ماحول چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی یہ بات بھی

(۱) [ابو داؤد: کتاب السنۃ: باب فی الجھمیۃ (۴۷۲۲) بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح: کتاب

الایمان (۷۵)]

(۲) [بخاری: کتاب الاذان: باب فضل التاذین (۶۰۸)]

ٹھکرا کر ہجرت کے لیے چل پڑتا ہے۔ پھر شیطان اس کے جہاد کے راستہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: تم جہاد کرو گے تو تمہاری جان اور مال کو نقصان پہنچے گا، ممکن ہے لڑائی میں تم مارے جاؤ اور تمہاری بیوی کسی اور سے شادی کر لے گی اور تمہارا مال و دولت بھی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا! مگر اس کے باوجود انسان اس کی بات ٹھکرا کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے۔ اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر وہ ڈوب کر مر جائے یا جانور سے گر کر مر جائے تو پھر بھی اللہ پر واجب ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔“ (۱)

اس روایت کے سیاق و سباق سے بھی واضح ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف مواقع پر یہ خیال اور وسوسا پیدا کرتا ہے اور عملی طور پر ہر انسان کو اس تجربہ و مشاہدہ سے گزرنا پڑتا ہے مثلاً کسی وقت اللہ کے نام پر کوئی سائل امداد کا مطالبہ کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر اسی اثناء شیطان اس کے برعکس یہ خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا اور اس خیال سے یا تو انسان اپنے پہلے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس کے برعکس اللہ کی توفیق سے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔

شیطان اور اس کے وسوساں کے بارے میں سید مودودیؒ کی رائے

مولانا مودودیؒ سے شیطان کے حوالے سے درج ذیل سوال کیا گیا کہ

سوال: لفظ شیطان کی ماہیت کیا ہے جو کہ قرآن میں متعدد مقامات پر مذکور ہے اور یوں بھی عام فہم زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا شیطان ہم انسانوں جیسی کوئی مخلوق ہے جو زندگی و موت کے حادثے سے دوچار ہوتی ہے اور جس کا سلسلہ تو والد و تناسل کے ذریعہ قائم ہے؟ کیا یہ بھی ہماری طرح ہم آہنگی میں مربوط ہوتی ہے جس طرح سے ہم لکھانے کمانے اور دیگر لوازمات زندگی میں مشغول رہتے ہیں؟ اس کے انسان کو دھوکہ دینے کی کیا قدرت ہے؟ کیا یہ اعضائے جسمانی میں سرایت کر جانے کی قدرت رکھتی ہے اور اس طرح انسان کے اعصاب و محرکات پر قابو پالیتی ہے اور بالجبر اسے غلط راستے پر لگا دیتی ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ یا شیطان غربی زبان کی اصطلاح میں محض ایک لفظ ہے جو ہر اس

(۱) [صحیح سنن نسائی (۲۹۳۷) صحیح الجامع الصغیر (۲/۷۲)]

فرد کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو تخریبی پہلو اختیار کر لے۔ یا یہ انسان کی اس اندرونی جبلت کا نام ہے جسے قرآن نفس امارہ یا نفس لوامہ کے الفاظ سے تشبیہ دیتا ہے یعنی نفس جو غلط کاموں کی طرف اکساتا ہے چونکہ شیطان کا حربہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس لئے اس سے بچنے کی خاطر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔

مولانا مودودیؒ نے اس کا درج ذیل جواب دیا:

جواب: شیطان کے متعلق میرے پاس کوئی ذریعہ معلومات قرآن وحدیث کے سوا نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ شیطان محض کسی قوت کا یا انسان ہی کے کسی رجحان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جنوں میں سے ہے اور جن ہماری طرح ایک مستقل مخلوق ہے جس کا ہر فرد، فرد انسان کی طرح ایک شخصیت Personality رکھتا ہے۔ اس کی معیشت اور اس کے مشاغل اور توالد وتناسل وغیرہ کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس کو ہمارے جسم پر قبضہ کر کے ہم سے بالجبر کوئی کام کرا لینے کے اختیارات نہیں دیئے گئے ہیں۔ وہ صرف ہمارے نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے یا دوسروں اور شہادت کا کام کر سکتا ہے۔ اور ہم چاہیں تو اس کی ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اسی طرح مولانا سے اس سلسلہ میں ایک اور سوال کیا گیا کہ

سوال: جب بھی کسی برائی کے سرزد ہو جانے کے بعد مجھے مطالعہ باطن کا موقع ملا ہے تو میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ خارج سے کسی قوت نے مجھے غلط قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کیا بلکہ میری اپنی ذات ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ جب میری جبلی خواہش فکری پر غالب آ جاتی ہے اور میری روح پر میری نفسانیت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ باہر سے کوئی طاقت میرے اندر حلول کر کے مجھے کسی غلط راہ پر نہیں لے جاتی۔ مگر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ان فکری اور عملی گراہیوں کا محرک شیطان ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ یہ دشمن انسانیت کبھی خارج سے اور کبھی انسان کے اندر گھس کر اسے غلط راستوں پر لے جاتا ہے

(۱) [ماہنامہ 'ترجمان القرآن' جلد ۵۲، عدد ۵۔ اگست ۱۹۵۹ء]

اس سلسلہ میں دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی شیطان کو ایک مستقل وجود رکھنے والی ایسی ہستی تسلیم کرتے ہیں جو انسان کو بہکاتی اور پھسلاتی ہے؟  
مولانا اس کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ

جواب: شیطان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ جن کی نوع کا ایک فرد ہے، اور اس نوع کے بہت سے افراد نوع انسانی کی طرح مومن بھی ہیں اور کافر بھی۔ نیز شیاطین جن انہی کافروں میں سے ہیں۔ اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جنوں کی نوع ناری الخلق ہے۔ مجھے اس نوع کے وجود میں کوئی اشکال محسوس نہیں ہوتا۔ مادہ اور قوت Energy کے متعلق ہماری معلومات درحقیقت ابھی بالکل ابتدائی ہیں، قوت کے مادی صورت اختیار کرنے کے بعد کی حالتوں کے متعلق تو ہم سچا کچھ زیادہ جانتے ہیں، مگر مادی صورت اختیار کئے بغیر محض قوت رہنے کی حالت میں وہ کیا کیا کچھ ہو سکتی ہے، اس علم کی سرحد سے ابھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے، اور آخر کیوں ممکن نہیں ہے کہ محض توانائی ہونے کی حالت میں بھی مختلف انواع کی موجودات اس کائنات میں ہوں؟ اور ان میں بعض قسم کی موجودات ایسی بھی ہوں جن کے افراد شعور وارادہ اور حرکت و عمل کی قدرت کے ساتھ اپنی ایک مستقل ذات رکھتے ہوں؟ شیطان میرے نزدیک اسی نوعیت کی ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق بھی ہماری طرح اس کرۂ زمین میں پائی جاتی ہے۔

رہا ہمارے نفس کے ساتھ اس کا ربط Contact اور اس کا ہمارے اندر کے معرکہ خیز و شر میں شر کے رجحانات کو تقویت پہنچانا، تو یہ بھی کوئی ناقابل یقین یا ناقابل تعقل بات نہیں ہے۔ اپنے نفس کے متعلق ابھی ہماری معلومات بہت کم ہیں اور اس کی ترکیب کی گتھیوں کو ہم سلجھنا نہیں سکے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے کہ جس وقت ہم اپنے اندر کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ آخری فیصلہ ابھی ہم نے نہیں کیا ہوتا ہے کہ خیر اور شر میں سے کس پہلو کو اختیار کریں، اس وقت کوئی غیر محسوس خارجی مؤثر ہمارے رجحانات شر کو تقویت پہنچاتا ہو، اور اسی طرح کوئی دوسرا غیر محسوس خارجی مؤثر (یعنی فرشتہ) ہمارے رجحانات خیر کو مدد دے رہا ہو، بغیر اس کے کہ ہم اس کے عمل اور طریق عمل کا ادراک کر سکیں، اگرچہ اس کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا لیکن اگر ایسی کشمکش کے مواقع پر بہت زیادہ غور سے اپنی

اندرونی حالت کا جائزہ لیا جائے تو ایک دھندلا سا خیال ضرورت آتا ہے کہ خارج سے بھی کوئی چیز ہمارے داخلی عوامل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میں نے خود کبھی کبھی اس کو محسوس کیا ہے۔ بہر حال کسی غیر مادی صاحبِ تشخص ہستی کا ہمارے تو اے نفسانی سے براہِ راست ربط قائم کرنا اور ان کو متاثر کرنا کوئی بعید از امکان بات نہیں ہے اور نہ اس کا تصور کرنا کچھ مشکل ہے۔ الایہ کہ ہم پہلے ہی سے یہ فرض کر بیٹھیں کہ اس کائنات میں ہماری موجودات کے سوا اور کسی قسم کی موجودات نہیں ہیں۔<sup>(۱)</sup>

انسان اور شیطان کی باہمی آویزش کے حوالے سے ایک جگہ مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں: ”قرآن کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک محدود نوعیت کی آزادی و خود مختاری دے کر اس دنیا میں امتحان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور شیطان کو خود اس کے مطالبے پر یہ آزادی عطا کی ہے کہ وہ اس امتحان میں انسان کو ناکام کرنے کے لئے جو کوشش کرنا چاہے کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ صرف ترغیب و تحریص کی حد تک ہو۔ زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جانے کے اختیارات اسے نہیں دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسان کو جبراً راہِ راست پر چلانے سے احتراز فرمایا ہے اور صرف اس بات پر اکتفا فرمائی ہے کہ انسان کے سامنے انبیاء اور کتابوں کے ذریعہ سے راہِ راست کو پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خدا کی پیش کردہ راہ کو اپنے لیے چن لے اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرے اور چاہے تو شیطان کی ترغیبات قبول کر لے اور اس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنے پر آمادہ ہو جائے جو شیطان اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان دونوں راہوں میں سے جس کو بھی انسان خود اپنے لئے انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے کے مواقع اسے دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بتائیے کہ شیطان کا چیلنج دراصل کس کے لئے ہے؟ خدا کے لیے یا انسان کے لئے؟ اور انسانوں میں سے جو لوگ شیطان کی راہ پر جاتے ہیں ان کے معاملہ میں شیطان کی جیت خدا پر ہوتی ہے یا انسان پر؟ خدا نے تو آدمی اور شیطان کو آزادانہ کشتی

(۱). [ماہنامہ 'ترجمان القرآن' جلد ۵۳، عدد ۲۔ نومبر ۱۹۵۹ء]

لڑنے کا موقع دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آدمی جیتے گا تو جنت میں جائے گا اور شیطان جیتے گا تو ہارنے والا آدمی اور اس کو غلط راہ پر لے جانے والا شیطان دونوں جہنم میں جائیں گے۔“ (۱)

### شیطانی وسوس اور انبیائے کرام

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج ۵۲]

”ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔“

اس آیت کے ظاہری مفہوم سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ شیطان لعین، انبیائے کرام جیسے قدسی نفوس کے دلوں میں بھی وسوس پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس سلسلہ میں ایک روایت بھی بعض کتب احادیث میں مروی ہے جس سے بہت سے لوگ شبہات کا شکار ہوئے ہیں۔ انبیاء کے حوالے سے شیطانی وسوس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلہ میں آئندہ سطور میں مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ کی تفسیر ”تیسیر القرآن“ کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا کیلانیؒ رقمطراز ہیں کہ:

”تمنی کے معنی تمنایا آرزو کرنا بھی لغوی لحاظ سے درست ہیں اور تلاوت کرنا بھی۔ ترجمہ میں پہلے معنی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یا رسول جب کوئی آرزو کرتا ہے (اور نبی یا رسول کی بڑی سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو فروغ اور قبول عام حاصل ہو) تو شیطان اس کی خواہش کی تکمیل میں کئی طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور ایسا دوسرے بعض دفعہ تو شیطان نبی اور اس کے پیروکاروں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے کفار کے کسی حسی معجزہ کے مطالبہ پر خود رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھادے تو اس سے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یا مثلاً رؤسائے

(۱) [تفہیم الاحادیث (ج ۱ ص ۴۰، ۴۰۱) بحوالہ رسائل ومسائل (ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۱)]

قریش نے آپ ﷺ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ان ناتواں اور حقیر لوگوں (یعنی کمزور مسلمانوں) کو اپنی مجلس سے کسی وقت اٹھادیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی دعوت غور سے سننے کو تیار ہیں اور رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کی عدم مخالفت اور اسلام کے غلبہ کی خاطر کافروں کے اس مطالبہ پر غور کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئے تھے تو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروقت تشبیہ ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرمادیتا جو خود اسے منظور ہوتا تھا اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ شیطان نبی یاریوں کی خواہش کی تکمیل کی راہ میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں اور یہ لوگ دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں؛ ایک منافقین اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل قبولِ حق کے سلسلہ میں پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر ایسے لوگوں کی تمام تر سازشوں اور کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اور جس مقصد کی تکمیل کے لئے وہ کسی نبی یاریوں کو مبعوث فرماتا ہے، اسے پختہ سے پختہ تر بنا دیتا ہے۔

### کسی نبی یاریوں کی آرزو میں شیطانی وسوسہ؟

اور اگر 'تمنیٰ' کا معنی تلاوت کرنا سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یاریوں کوئی آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے سلسلہ میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ ﴿حرمت علیکم المیتة﴾ تو بعض لوگوں نے اعتراض جڑ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا مارا ہوا جانور حرام ہو اور انسان کا مارا ہوا (ذبح کیا ہوا) حلال؟ یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ تھا۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿انکم وماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم﴾ (یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو حسب جہنم کا ایندھن بنیں گے) اور آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو کافروں نے فوراً یہ اعتراض جڑ دیا کہ پرستش تو سیدنا عیسیٰ اور سیدنا عزیٰ اور فرشتوں کی بھی کی جاتی رہی ہے تو کیا یہ ہستیاں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گی؟ یہ بھی خالصتاً شیطانی وسوسہ تھا۔ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ دوسری صریح اور محکم آیات نازل فرما کر شکوک و شبہات اور شیطانی وساوس کو دور فرما کر اپنے حکم کی وضاحت فرمادیتے ہیں۔

### لات و منات کی سفارش کا من گھڑت قصہ

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق بعض تفاسیر میں ایک واقعہ مندرج ہے جو یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ سورہ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ تلاوت مشرکین مکہ بھی پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ جب آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں ﴿افراہیم اللات والعزی ومنات الثالثة الاخری﴾ تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر درج ذیل الفاظ یوں پڑھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بھی آپ ہی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں / تلک الفرائق العلی وان شفاعتہن لرحمی (یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں یعنی لات، عزی اور منات۔ اور اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کی یقیناً توقع کی جاسکتی ہے) چنانچہ جب مشرکین مکہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے کہ ان کے بتوں کا بھلائی سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ بڑے غور سے آپ کی تلاوت سننے لگے اور سورہ النجم کے اختتام پر آپ نے اور دیگر مسلمانوں نے سجدہ کیا تو ساتھ ہی مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔

پھر یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں اور کفار مکہ میں صلح و سمجھوتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی جب مہاجرین حبشہ کو ملی تو ان میں سے بعض مہاجر مکہ واپس آ گئے لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ یہ واقعہ کئی لحاظ سے غلط ہے مثلاً:

۱۔ ان تمام روایات کی اسناد مرسل اور منقطع ہیں۔ لہذا یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ اسی وجہ سے صحاح ستہ میں اس قسم کی کوئی روایت مذکور نہیں۔

۲۔ ان آیات میں ”اس شیطانی وسوسہ“ سے پہلے ہی بتوں اور دیویوں کی مذمت مذکور ہے اور بعد میں بھی۔ لہذا درمیان میں بتوں کا یہ ذکر کسی لحاظ سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔

۳۔ تاریخی لحاظ سے یہ روایات اس لئے غلط ہیں کہ ہجرت کا واقعہ ۵ نبوی میں پیش آیا تھا اور جو مہاجر اس غلط افواہ کی بنا پر واپس مکہ آئے تھے وہ صرف تین ماہ بعد آئے تھے۔ جبکہ یہ سورت مدنی ہے اور ہجرت حبشہ سے واپسی اور اس سورہ کے نزول کے درمیان کم از کم آٹھ نو سال کا عرصہ ہے۔



### شیطانی وساوس کا مختلف لوگوں پر مختلف اثر:

ان روایات میں دراصل کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جو بعد میں محکم اور واضح آیات نازل کر کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں وہ پہلے ہی ایسے واضح احکام کیوں نہیں بھیج دیتے جن سے شکوک و شبہات پیدا ہی نہ ہوں“ یہ اعتراض بھی دراصل کج رو اور کج فطرت کافروں کی عیاری کا غماز ہے اور اس کا جواب سورہ آل عمران کے ابتدا میں آیات متشابہات اور آیات محکمات (آیت نمبر ۷) میں بیان ہو چکا ہے اور یہاں بھی انہیں دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ:

۱۔ شکوک میں مبتلا صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوں یا ہٹ دھرم قسم کے کافر۔

۲۔ ایسی آیات سے بھی ایمانداروں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔

۳۔ ایسی آیات دراصل سب لوگوں کے لئے ایک آزمائش اور جانچ ہوتی ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے؟ آیا وہ منافقوں سے تعلق رکھتا ہے یا اللہ پر ایمان لانے والوں سے؟“ (۱)



(۱) | تفسیر ”تیسیر القرآن“ از مولانا کیلانی <sup>77</sup> (ج ۳، ص ۱۷۱ تا ۱۷۳)

## باب سوم فصل (۱)

## شیاطین اور جنات کی دنیا، ایک نظر میں

شیطان اکبر کی واردات اور حملوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس سے متعلقہ معلومات اچھی طرح حاصل ہوں۔ شیطان چونکہ جنات کی جنس سے ہے اور اپنی تمام عادات و صفات وغیرہ میں یہ انہی کے مشابہہ ہے اس لیے آئندہ سطور میں ہم جنات کے بارے میں عمومی تعارف اور بنیادی معلومات مہیا کر رہے ہیں۔

## جنات و شیاطین اور ان کا دین و ایمان

بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی جنات کو بھی انسانوں ہی کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس عبادت کے لیے انہیں اختیار بھی دیا ہے لیکن جس طرح انسان اس اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یا پھر کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح بعض جن بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان بن کر مسلمان ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے جن اسلام میں داخل نہیں بھی ہوتے۔ اس سلسلہ میں خود قرآن مجید میں جنوں کا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا زَكَاةً وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الحج - ۱۷، ۱۸]

”ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں۔ پس جو فرماں بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔“

## جنات کی خوراک

صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح کھانے پینے والی مخلوق ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات اپنی خوراک دو طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو وہ خوراک جو انسان کھاتے ہیں اور یہ جنات بھی چوری چھپے ان کے ساتھ

شامل ہو کر اسے کھالیتے ہیں جیسا کہ درج ذیل احادیث سے ثابت ہے:

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جب پانی پینے لگو تو دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

۲۔ حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ کسی کھانے میں حاضر ہوتے تو اس وقت تک کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاتے جب تک کہ آپ شروع نہ فرمالتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے کے لیے حاضر تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا اسے کوئی دھکیل کر لایا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھانا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا گویا کوئی اسے بھی دھکیل کر لایا ہو۔ آپ ﷺ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور اس لیے شیطان اس لڑکی کو دھکیل کر لایا تاکہ اس کے ساتھ وہ کھانا حلال کر سکے۔ مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا پھر شیطان اس کو دھکیل کر لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانا اپنے لیے حلال کر سکے مگر میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم اس ذات کی! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلاشبہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے!<sup>(۲)</sup>

اس کے علاوہ بھی جنات کی باقاعدہ الگ خوراک کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا کہ

((لکم کل عظم فی ایدیکم او فرما یکون لحما وکل بعرۃ علف لدواہکم))  
..... فقال رسول اللہ ﷺ فلا تستنجوا بہما فانہما طعام اخوانکم))<sup>(۳)</sup>

(۱) [مسلم: کتاب الاشریۃ: باب آداب الطعام ..... (۲۰۲۰)]

(۲) [مسلم کتاب الاشریۃ: باب آداب الطعام (۲۰۱۷)]

(۳) [مسلم: کتاب الصلاۃ: باب الجھر بالقرآۃ فی الصبح (۴۵۰)]

”ہر وہ بڑی جس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ تمہاری خوراک ہے اور اللہ کا نام لینے کی برکت سے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھر پور ہو جائے گی۔ اور میٹھنیاں تمہارے جانوروں کا چارہ ہیں..... پھر اللہ کے رسول ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجانہ کرو کیونکہ یہ ہمارے بھائیوں (یعنی مسلمان جنوں) کی خوراک ہے۔“

### جنات کی رہائش

جنات عموماً ویران مقامات، کھنڈرات، جنگلوں اور صحراؤں میں رہائش رکھتے ہیں جبکہ ان میں سے مسلمان جنات خاص طور پر بیت اللہ کا قرب و جوار، مکہ و مدینہ جیسے معزز و افضل شہروں اور مسجدوں وغیرہ جیسی پاک جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کرتے ہیں اور ان کے برعکس شریر اور غیر مسلم جن، گندی جگہوں مثلاً بیت الخلاء، کورا کرکٹ کے ڈھیر اور کفر و شرک کے اڈے وغیرہ جیسی معنوی یا حسی طور پر نجاست سے لبریز جگہوں کو اپنی رہائش کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النُّجْبِ وَالْعِبَائِثِ)) (۱)

”یا اللہ! میں جنوں اور جنیوں (چڑیلوں) سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

ایک روایت میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ

”ان گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں لہذا جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا (درج بالا) پڑھ لیا کرے۔“ (۲)

### جنات جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟

اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ رقمطراز ہیں کہ:

”اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافر جن جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور اکثر و بیشتر اہل علم کے بقول مسلمان جن جنت میں جائیں گے۔“ (۳)

(۱) [بخاری: کتاب الوضوء: باب ما یقول عند الخلاء]

(۲) [حاکم (ج ۱ ص ۱۸۷) امام حاکم او رذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے]

(۳) [مجموع الفتاویٰ (ج ۱۹ ص ۳۸)]

## کیا جن اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے؟

قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جن اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں چند دلائل ملاحظہ ہوں:

۱۔ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّارِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَاذْ ذَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الانفال: ۴۷]

”ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اترتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کر راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے جبکہ ان کے اعمال، شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور رکبہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دلا ہے۔“

ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان سراقہ بن مالک نامی ایک مشرک سردار کا روپ دھار کر آیا تھا اور انہیں اپنے اور اپنے قبیلے بنو بکر بن کنانہ کے تعاون کا بھرپور وعدہ دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے یہ وعدہ اس لیے دلایا کیونکہ یہ قبیلہ قریش مکہ کا حریف تھا۔<sup>(۱)</sup>

۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ”مدینہ میں کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو اسے تین مرتبہ اذن (حکم) دو کہ وہ چلا جائے۔ اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔“<sup>(۲)</sup>

(۱) [دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر فتح القدیر، بذیل آیت مذکورہ]

(۲) [مسلم: کتاب السلام: باب اجتناب للمحذوم ونحوہ (۲۲۳۶-۱۴۱)]

۳۔ حضرت ابوسائبؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعیدؓ سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ نماز میں مشغول تھے چنانچہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا دریں اثناء ان کے گھر کے ایک طرف ان کے بستر کے نیچے سے مجھے سانپ کی حرکت محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا تو واقعی سانپ تھا چنانچہ میں اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابوسعیدؓ نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو۔ میں بیٹھ گیا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ایک نوبیا ہتا جو زارتا تھا۔ جب ہم جنگ خندق میں اللہ کے حضور ﷺ کے ہمراہ تھے تو اس شخص نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول ﷺ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی آپؐ نے اسے فرمایا کہ مجھے بنو قریظہ (یہودی قبیلے) سے خطرہ ہے۔ لہذا تم اپنا ہتھیار بھی ساتھ لے جاؤ۔

جب وہ صحابیؓ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی بیوی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس صحابیؓ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا نیزہ تان لیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اپنا نیزہ دور رکھو اور پہلے گھر میں داخل ہو کر جائزہ لو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کنگڑی مارے بیٹھا ہے، اس نے فوراً سانپ کو اپنا نیزہ چھو یا اور اسے نیزہ میں پرو کر نیزہ صحن میں گاڑ دیا وہ سانپ نیز سے پرترپنے لگا اور پھر یہ معلوم نہیں کہ سانپ پہلے مرایا اسے قتل کرنے والا صحابیؓ؟ پھر حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپؐ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور فرمائش کی کہ آپؐ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صحابیؓ کو زندہ کر دیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو پھر فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا جب تم کوئی جن (سانپ وغیرہ کی شکل میں) دیکھو تو اسے تین دن تک (اور بعض روایات میں تین مرتبہ) نکل جانے کی وارننگ دو۔ پھر اس کے باوجود اگر وہ نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔<sup>(۱)</sup>

معلوم ہوا کہ وہ سانپ اصل میں جن تھا جس نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا۔

(۱) [مسلم: کتاب السلام ..... (۲۲۳۶-۱۳۹)]

۴۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کا معروف واقعہ ہے کہ وہ صدقہ کی کھجوروں کی حفاظت پر نامور تھے کہ شیطان ایک آدمی کی شکل میں آ کر چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی منت سماجت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ تین دن مسلسل ایسا ہوتا رہا کہ وہ شیطان انسانی روپ میں آتا مگر ابو ہریرہؓ اسے ہر مرتبہ پکڑ لیتے۔ پھر تیسرے دن اس نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم سوتے وقت اسے پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا پھر اس نے کہا تم آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو حضرت ابو ہریرہؓ نے اللہ کے رسول ﷺ کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا..... خود تو جھوٹا تھا مگر تمہیں سچی بات بتا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ شیاطین رجنات اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ شکلوں کی تبدیلی کیسے اور کیونکر ہوتی ہے اس کی کنہ و حقیقت اور حالت و کیفیت ہم نہیں جانتے۔

### جنات کی شادیاں اور اولاد

قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں مذکر و مؤنث کا تصور موجود ہے اور ان میں بھی آپس میں شادی، بیاہ، عشق و محبت اور زنا کاری و فحاشی وغیرہ جیسے تمام کام اسی طرح پائے جاتے ہیں جس طرح یہ کام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جنات کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ

﴿وَاذْقُنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اَسْحٰدًا لِّاٰدَمَ فَاَسْحٰدُوْا اِلَّا اِبٰلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ فَاسْتَحٰدُوْهُ وَذُرِّيَّتُهٗ اَوْلِيَآءُ مِنْ ذٰوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بٰنَسٍ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا﴾  
 ”اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برابر ہے۔“ [الکھف/۵۰]

(۱) [بخاری: کتاب الفضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة..... (۵۰۱۰)]

اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی شادیاں ہوتی ہیں تبھی تو ان کی اولاد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو یہ دعا مذکور ہے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ)) ”یا اللہ! میں جنوں اور جنیوں (چڑیلوں) سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔

### سرعت رفتار

جناتِ رشیاطین کو جس سرعت رفتار سے نوازا گیا ہے وہ انسانوں کو حاصل نہیں۔ مثلاً حضرت سلیمانؑ کے واقعہ میں مذکور ہے کہ

﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ [النمل ۳۸، ۳۹]

”جب آپ (یعنی حضرت سلیمانؑ) نے کہا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو ان (اہل جین) کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس (ملکہ عین یعنی سبا) کا تخت مجھے لادے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لادیتا ہوں اور یقین مایے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔“

کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ اس وقت یروشلم میں تھے اور وہاں سے ملکہ سبا کا تخت تقریباً ڈیڑھ دو ہزار کلومیٹر دور تھا۔ اور یہ عرش تھا بھی بہت وزنی۔ مگر قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کی یہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے یہ عرش آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اور یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا مگر جنوں کو اتنی سرعت رفتار اور قوت و طاقت سے نوازا گیا ہے!

### فضاؤں میں اڑان

جنات کو فضاؤں میں اڑنے اور سرعت رفتار سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کی قوت بھی دی گئی ہے حتیٰ کہ جنات زمین سے آسمانوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے ساتھ دنیوی امور کے حوالے سے جو مجلس ہوتی ہے، اسے سننے اور داز چوری کرنے کی یہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔



## بے پناہ قوت و طاقت، تجربہ و ذہانت اور عقل و شعور!

درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بے پناہ قوت و طاقت، تجربہ و ذہانت اور عقل و شعور سے نوازا گیا ہے:

﴿وَمِنَ الْجِنَّةِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ رِزْقَ رَبِّهِ وَمَن يَرْغَبُ مِنْهُمُ عَنِ آيَاتِنَا فَلْيَلْفِظْ مِنَ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَلِيشَاءَ مِّنْ مَّحْطُوبٍ وَمَتَابِلَ وَجْهَانِ كَالْجَوَابِ وَقَدْ وَرَدَ اسْمُكَ﴾  
 ”اور اس (حضرت سلیمان) کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرطانی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا حرہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے، محسے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بیماری دیکھیں۔“ [الہٰبہ: ۱۲، ۱۳]

## شیاطین زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے.....!

اللہ تعالیٰ کے نیک، صالح بندوں پر شیاطین غلبہ نہیں پاسکتے اور نہ ہی زبردستی کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ﴾ [الحجر: ۴۲]  
 ”بلاشبہ میرے (صالح) بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں“  
 اسی طرح جہنم میں جانے کے بعد شیطان خود جنہی لوگوں سے کہے گا:  
 ﴿وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتَكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلْمُؤُنِيْ وَتَلْمُؤُوا أَنفُسَكُمْ.....﴾ [الہٰبہ: ۲۲]

”میرا تم پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں (اپنی طرف) بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہذا (آج) تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔“

## بعض نیک لوگوں سے شیطان ڈرتے ہیں!

جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا:

((وَالَّذِي تَقَسَّى بِإِيْدِهِ مَا يَهِيكُ الشَّيْطٰنُ لَقَطٌ سَالِكًا لِّجَا إِلَّا سَلَكَ لِّجَا غَيْرَ فَجَعَكَ))

”اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان کسی راستے سے تمہیں آتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔“ (۱)

اسی طرح ایک روایت میں صراحت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا فرمان موجود ہے کہ (( ان الشیطان لیخاف منک یا عمر )) (۲) ”اے عمر! شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔“

### شیاطین قرآن جیسا معجزہ لانے سے قاصر ہیں!

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انس و جن کو یہ چیلنج دیا کہ ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الاسراء/۸۸]

”(اے نبی!) آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا، ناممکن ہے گو وہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔“

### شیاطین بند دروازے کو کھول نہیں سکتے!

جیسا کہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلنے ہیں۔ البتہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔“ (بشرطیکہ وہ اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو) (۳)

### شیاطین آنحضرت ﷺ کی شکل اختیار نہیں کر سکتے!

جیسا کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

(۱) [بخاری: کتاب بدء الخلق: باب صفة ابليس و جنوده (۳۲۹۴)]

(۲) [صحيح سنن ترمذی (۲۹۱۳)]

(۳) [بخاری: کتاب بدء الخلق: باب صفة ابليس (۳۳۰۴) مسلم (۲۰۱۲)]

((من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي))<sup>(۱)</sup>

”جب کسی شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔“

شیطان اللہ کے رسول ﷺ کی صورت تو ہرگز اختیار نہیں کر سکتا مگر وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ کسی اور خوبصورت شکل میں آ کر کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس دھوکہ سے بچاؤ کی اہل علم ایک تدبیر تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چونکہ نبی اکرمؐ کو حالت حیات میں دیکھا نہیں اس لیے ہم آپؐ کو پہچان ہی نہیں سکتے لہذا ایسا کوئی معاملہ ہو تو فوراً سمجھ لینا چاہئے کہ لامحالہ ایسی تصویر شیطان کی ہوگی۔ دوسری تدبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ خواب میں جو صورت دکھائی گئی ہو، اگر وہ غیر شرعی حالت میں نہ ہو اور کوئی خلاف شرع حکم بھی نہ دے تو پھر ممکن ہے کہ وہ نبی اکرمؐ کی تصویر ہو اور شیطان کی تصویر نہ ہو۔ واللہ اعلم!

شیطان، انسانوں کی آبادی پر حملہ آور نہیں ہو سکتے.....!

جنات و شیاطین کے حملے اگرچہ غیر مرئی و غیر محسوس شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کسی پر جسمانی حملے بھی یہ کرتے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شیطان کے کسی لشکر نے انسانوں کی بستی پر حملہ کر کے انہیں ملیا میٹ کیا ہو۔



(۱) [بخاری: کتاب التعمیر: باب من رأى النبی فی المنام..... (۶۹۹۴) مسلم (۲۲۶۶، ۲۲۶۸)]

## حقیقت جن ..... اور منکرین جنات و شیاطین کے اعتراضات کا علمی محاکمہ

جن کی حقیقت کے متعلق شبہات کی ابتداء درجہ جدید میں غالباً انیسویں صدی کے وسط آخر میں ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں محض کسی مذہبی کتاب کی سند پر کسی ایسی شے کو موجود ماننا، جس کے وجود کا کوئی سائنٹفک ثبوت موجود نہ ہو، بڑے شرم کی بات ہو گئی تھی اور ایسی شرم ناک بات کا ارتکاب صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو اس زمانے کے اہل علم کی نگاہوں میں تاریک خیال اور توہم پرست کٹھ ملا بننے کے لیے تیار ہوتا۔ ان حالات میں ان مسلمانوں نے جو اپنی دنیوی ترقی کے لیے اپنے غیر مسلم آقاؤں اور پیشواؤں کی نگاہ میں روشن خیال اور عقل پرست بننا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک نئی نگاہ سے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ اور ہر اس مسئلے کو جسے ماننے کے لیے انیسویں صدی کے مادہ پرست بندگانِ حواس و پرستارِ ان عادت، آمادہ نہ ہو سکتے تھے، ایسے عجیب طریقوں سے تاویل کی خرد پر چڑھایا کہ وہ مسئلہ قرآن سے خارج بھی نہ ہو اور ان لوگوں کے افکار و تخیلات کے مطابق ڈھل بھی گیا جو قرآن کی روح اور اس کے اصول و اذیہ سے بنیادی اختلاف رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں جن قرآنی ارشادات کو توڑا مروڑا گیا انہی میں سے ایک وہ ارشادات ہیں جو ابلیس، شیاطین اور جنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ

✽ [یہ فصل دراصل ماہنامہ 'ترجمان القرآن' (جنوری ۱۹۳۵ء) میں مولانا مودودیؒ کے قلم سے شائع ہونے والے ایک مضمون پر مشتمل ہے جسے مولانا کی کتاب 'تہمات' (حصہ دوم) کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں موصوف نے منکرین جنات کے دلائل و اعتراضات کا بھرپور علمی محاکمہ کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ (امین) اس مضمون کے شروع میں مولانا کا یہ اقتباس درج ہے: "یہ مضمون ایک کتاب پر تنقید کے سلسلے میں لکھا گیا تھا جو چند سال قبل شائع ہوئی تھی۔ ابتداءً ہم نے مصنف کے ان خیالات پر مختصر تنقید کی تھی جو انہوں نے اپنی کتاب میں جنوں کے متعلق ظاہر کیے تھے۔ پھر ایک اہل قلم نے اس تنقید پر تعاقب کیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ چونکہ اس سے مقصود محض فائدہ علمی ہے، کس پرانی بحث کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے دونوں صاحبوں کے نام حذف کر دیئے گئے ہیں۔" ]

ان الفاظ سے کوئی ایسی مخلوق مراد نہیں ہے جو انسان سے الگ فوق الطبعی وجود رکھتی ہو۔ بلکہ ان سے کہیں تو انسان کی اپنی بیسی قوتیں مراد ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں ان سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قوتیں ہیں، اور کہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن مجید بنا کرتے تھے۔ یہ تاویلات اتنی رکیک ہیں کہ ان کا ارتکاب صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو عربی زبان اور قرآن مجید کا تھوڑا سا علم بھی نہ رکھتا ہو، یا پھر وہ جس کے دل میں خدا اور یوم آخرت کے خوف سے زیادہ اہل دنیا کا خوف ہو۔ لیکن ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جن حالات سے ہندوستان کے مسلمان گذرے ہیں ان میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی تھیں۔ اس لیے یہ اور ان سے بھی زیادہ رکیک تاویلات قرآن مجید میں کی گئیں اور طرفہ ماہر ایہ کہ ادعائے علم و حمایت اسلام کے ساتھ کی گئیں۔

جس طرح انسان پر بہت سے دور گذر چکے ہیں اسی طرح یہ دور بھی گذر گیا۔ اب خود یورپ میں بھی ایک بڑا گردہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو روحانیت کا قائل ہے اور اس محسوس و مرئی دنیا کے علاوہ ایک ایسے عالم کے وجود کو بھی مانتا ہے جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے اب جن و شیاطین کے مستقل وجود کو تسلیم کرنا اتنا خطرناک نہیں رہا جتنا اب سے پہلے کچھ مدت تھا۔ تاہم ابھی اس دور کے اثرات بالکل زائل نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک محض قرآن مجید کی سند پر کسی ایسی بات کو ماننے سے دماغ انکار کر رہے ہیں جو فوق الطبعی ہونے کے ساتھ خارجی عادت بھی ہو۔ یہ اسی دور کے سچے کچھے اثرات تھے جو اس دور میں ہم کو نظر آئے۔ مولانا..... قرآن کے صریح ارشادات کو دیکھ کر یہ تو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ”جن“ سے مراد وہ ایک آتشیں مخلوق ہے جو انسان سے علیحدہ وجود رکھتی ہے۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ جنوں کی طرف جو امور منسوب کیے گئے ہیں، وہ چونکہ خارجی عادت ہیں اور ان کو بعینہ اس طرح ماننا جس طرح قرآن میں وہ بیان ہوئے ہیں، اقتضائے عقلیت کے خلاف محسوس ہوتا ہے، اس لیے انھوں نے کسی نہ کسی طرح تاویل کر کے جنوں کی دو قسمیں قرار دے لیں۔ ایک وہ مخصوص نوع کی مخلوق جو ناری الوجود ہے اور انسان سے اصلاً مختلف ہے۔ دوسرے انسانوں کا کوئی خاص طبقہ جس کے متعلق نہ وہ خود جانتے ہیں نہ کسی حوالہ سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے اور کس بنا پر ’جن‘ کے نام پر موسوم ہو گیا؟

ہمارے دوست..... الحمد للہ ان اثرات سے محفوظ ہیں مگر پھر بھی ایک مقام پر ان کو ’جن‘ کے انسان ہونے کا شبہ ہو ہی گیا۔ وہ مولانا..... کے اس خیال سے تو متفق نہیں ہیں کہ ”قرآن

مجید میں جہاں جہاں جن وانس کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں وہاں جن سے مراد وہ آتشیں جن نہیں بلکہ انسان ہی کا ایک طبقہ ہے۔“ لیکن خاص کر حضرت سلیمان کے جنوں پر بھی ان کو شبہ ہے کہ وہ انسان ہی تھے، آتشیں نہ تھے، کیونکہ وہ نظر نہ آتے تھے اور انسانوں کی طرح غوطے لگاتے اور برتن بناتے تھے۔

دو قاعدے: اس مسئلے کی تحقیق میں آگے قدم بڑھانے سے پہلے دو قاعدے ذہن نشین کر لیجیے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی معلومات میں سے کسی ایسی شے کو جو ہمارے دائرہ علم و ادراک سے خارج ہے، ہمارے علم میں لانا چاہتے ہیں تو لامحالہ وہ اس شے کو ہماری زبان کے کسی ایسے ہی لفظ سے تعبیر کرتا ہے جس کو ہم نے اس چیز کے ساتھ کسی قریب تر مشابہت رکھنے والی چیز کے لئے وضع کیا تھا۔ تاکہ ہم اس شے کا کسی حد تک صحیح تصور کر سکیں جو اللہ کے علم میں ہے اور ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق تعالیٰ کسی چیز کو یونہی کسی مناسبت اور ربط معنوی کے بغیر کسی خاص لفظ سے موسوم کر دے درآں حالیکہ اس چیز کے لیے دوسرے الفاظ کو چھوڑ کر اس خاص لفظ کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو جس چیز کو 'جنت' سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے لیے 'جنت' کا لفظ 'جہنم' کے مقابلہ میں اولیٰ نہ ہوتا۔ اور جس چیز کو 'نور' سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے لیے 'نار' کا استعمال بھی اسی طرح جائز ہوتا جس طرح کہ 'نور' کا لفظ ہے۔

دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ جب انسانی زبان کا کوئی ایسا لفظ اپنی کتاب میں استعمال فرماتا ہے جس کے ایک معنی لغت اور محاورے میں معلوم و معروف ہوں تو لامحالہ کتاب الہی میں بھی اس لفظ کے وہی معنی قرار پائیں گے جو لغت اور محاورے میں شائع و ذائع ہیں۔ الا یہ کہ کسی صریح علامت سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کسی خاص موقع پر یا مستقل طور پر عام معنی سے الگ اپنے ایک اصطلاحی معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ایسی کوئی علامت موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتا کہ لغت اور محاورے سے قطع نظر کر کے کتاب الہی کے کسی لفظ کا خواہ کوئی من مانتا مفہوم لے لیا جائے۔ یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر تاویل و تفسیر سے گذر کر معاملہ منہ و تحریف تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد انکل پچ تفسیروں کا سلسلہ کسی حد پر جا کر رک نہیں سکتا۔

'جن' کی لغوی تحقیق: قاعدہ اول کے مطابق ہم کو دیکھنا چاہیے کہ عربی لغت میں لفظ 'جن'

کا اصل کیا ہے اور اہل زبان نے اسے کس مفہوم کے لیے وضع کیا ہے۔

’جن‘ کا مادہ، جن ن ہے۔ اس مادہ کا مرکزی تصور پوشیدگی ہے اور اس کے تمام مشتقات میں کسی نہ کسی طور پر یہ تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ اصل الجن ستر الشيء من العمامة (راغب) کل شيء ستر عنك فقد جن عنك (جمہرہ ابن درید ولسان العرب)

اسی بنا پر جنان ہر چیز کے جوف کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ روح کو جنان اس لیے کہتے ہیں کہ جسم اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ دل کو جنان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صندوق سینہ میں مستور ہے۔ حریم خانہ کو جنان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چار دیواری میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ باغ کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ اس کی زمین کو چھپا لیتے ہیں۔ اگر باغ میں یہ مفت نہ ہو تو اس کو باغ نہیں کہہ سکتے۔ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے جنین ہے۔ حتیٰ کہ ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے اس پر جنین کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چھپے ہوئے کینے کو ’حقد جنین‘ کہا گیا ہے۔ قبر کو جنن کہتے ہیں۔ کنن کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ دفن کرنے کے لیے اجنان کا لفظ آتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: ولی مدفنہ صلی اللہ علیہ وسلم واجنانه علی واللبس، پردے اور آڑ کو جننہ کہتے ہیں چنانچہ قرآن میں ہے ﴿انخلوا ایہم انہم جنن﴾ (مناضون ۱۲) انہوں نے اپنی قسموں کو اس نفاق کے لیے پردہ بنا لیا ہے جو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ”جنہ و جن و علیہ“ چھپا لیا اس کو۔ ”چنانچہ قرآن مجید میں ہے ﴿الظلماء جن علیہ اللیل﴾ ”جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی۔“ اجنان کے معنی چھپا دینا اور استتھان کے معنی چھپ جانا۔ جن اللیل و جنان اللیل۔ رات کی شدید تاریکی جو پردہ پوش ہوتی ہے۔ چنانچہ درید بن الصمہ کہتا ہے: ”ولولا جنون اللیل احوک رکفتنا“

اور ہڈی کہتا ہے: ”حسی یجیء و جن اللیل یوغلہ“

راز اور پوشیدگی کو بھی جن کہتے ہیں۔ شل ہے لاجن بہذا الامر یعنی اس معاملہ میں کوئی راز نہیں ہے۔ جن الناس اور اجنان الناس / آدمیوں کی اس بھیڑ کو کہتے ہیں جس میں اگر کوئی آدمی گھر جائے تو پتہ نہ مل سکے کہ کہاں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں جن کے نام سے جس نوع مخلوقات کو بھی موسوم کیا جائے گا وہ بہر حال غیر محسوس یا کم از کم مستور ہی ہوگی۔ جس مخلوق میں مستوری کی مفت نہ پائی جائے اس کو اس نام سے کسی موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ تمام اکابر اہل لغت نے بالاتفاق یہی بات جنوں کی

وجہ تسمیہ میں لکھی ہے۔ چنانچہ حمیرہ ابن درید، مفردات امام راغب، صحاح، قاموس لسان العرب، تاج العروس، غرض زبان کی کسی مستند لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، سب میں یہی لکھا ہے گا کہ جن اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔

کلام عرب کی شہادت: لغت کے بعد کلام عرب پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے بطور خود یہ کوئی نئی اصطلاح وضع نہیں کی تھی۔ اہل عرب پہلے سے ایک ایسی فوق الطبیعی مخلوق کو جن کے نام سے یاد کرتے تھے جو بالاصل غیر مرئی وغیر محسوس تھی، مگر کبھی کبھی ان کو مختلف شکلوں میں نظر آتی تھی، جس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ وہ غیر معمولی افعال پر قادر ہے اور عالم طبیعت و اجسام پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خاص خاص مقامات پر یہ مخلوق قابض ہو جاتی ہے، چنانچہ ایسے مقامات کو وہ ارض مجنہ کہا کرتے تھے۔ سنسان جنگلوں اور بیابانوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہوتے ہیں، چنانچہ جب وہ کسی بیابان میں رات کو پڑاؤ کرتے تو کہتے: نعوذ بعزیز ہلنا الوادی من العجن اللیلة من شو مافیہ“ یعنی ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ آج رات ہمیں یہاں خیریت سے ٹھہر جانے دے۔“ خالی مکانوں کے متعلق ان کا اعتقاد تھا کہ ان میں جنوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی خالی مکان میں رات گزارتا اس کے حلقس کہا جاتا تھا کہ وہ رات کو جنوں کا مہمان تھا۔ اٹھل کہتا ہے: وبتنا کنا صیف جن ہلیلة جبلائے عرب جب کوئی نیامکان بنواتے تو پہلے وہاں جنوں کے لیے قربانی کرتے تاکہ وہ ساکنین مکان کو نہ ستائیں۔ اس کی طرف سے حدیث میں اشارہ ہے کہ انہ نہی عن ذبائح العجن“ نبی ﷺ نے جنوں کے لیے قربانی کی ممانعت کر دی۔“

جب کوئی انسان پاگل ہو جاتا تو عرب یہ سمجھتے تھے کہ اس پر جن مسلط ہو گیا ہے۔ اسی لیے وہ اس کو مجنون کہتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے اس خیال کو بیان کیا گیا ہے کہ ﴿مغسری علی اللہ کلہا ام بہ جنة﴾ [سہا ۸] ”(یعنی مشرکین نبی اکرم ﷺ کے حلقس کہتے تھے کہ) یہ شخص یا تو خدا پر افتراء باعہتتا ہے یا اس پر جن آتا ہے۔“

جب گائے پانی نہ پانی نہ پانی تھی تو اس کے زکو مارا جاتا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جن ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے اور وہ مادہ کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ ان کا وہم تھا کہ ایک جن ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو وہ ”تالیح“ یعنی ہمزاد کہا کرتے تھے۔ ہر غیر معمولی چیز جنوں کی



طرف منسوب کی جاتی تھی۔ چنانچہ جو شخص کام میں بہت تیز تھا اس کے حلقہ وہ سمجھتے تھے کہ جن اس میں سما جاتا ہے اس لیے اس کو جتنی (یعنی منسوب بہ جن منہ کہ خود جن) کہا جاتا تھا۔ ہر شاعر کا ایک خاص جن ہوتا تھا اور وہی اس کو شعر کہلویا کرتا تھا۔ جب کسی شخص کا وہ ٹوٹ جاتا تو کہتے کہ ”نفرت جنہ اس کا جن، جس کے زور سے وہ کام کر رہا تھا، بھاگ گیا۔“ عورت بہت جمیل ہوتی اس کو جیلا اجنبہ یعنی پُری کہتے کیونکہ جن عورتوں کا جمال ان کے نزدیک فوق الانسانی جمال تھا۔

جنوں کی انہی فوق الانسانی صفات اور قدرتوں کی بنا پر اہل عرب خدا سے ان کا نسب ملاتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے ﴿وَجعلوا بينه وبين العجہ نسباً﴾ [المختف ۵۸۷] یعنی انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قرار دے دی۔ اور اسی بنا پر وہ عبادت میں ان کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ ﴿هل ڪفو يعجلون العجن اكثرهم بهم مؤمنون﴾ [سبا ۱۳۲] بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں سے اکثر لوگ انہی کے مستحب بنے ہوئے تھے۔ ﴿وجعلوا لله شركاء العجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم﴾ [انعام ۱۳۷] اور انہوں نے اللہ کے ساتھ جن شریک ٹھہرا لیے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اور انہوں نے علم کے بغیر خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جوڑ کر لی ہیں۔ “تیز وہ معصیت اور خوف کے وقت انہی جنوں سے پناہ مانگتے تھے ﴿كان رجال من الانس يعوذون برجال من العجن﴾ [الحج ۱۷] ”انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔“ وہ ملائکہ کو بھی جن کہتے تھے۔ چنانچہ اسی کا قول ہے:

ومسخر عن جن الملك تسعة قبيحا للبيه يعملون بلاجر

”اس نے ملائکہ جن میں سے نو (۹) کو تابع کر لیا جو اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور مفت خدمت کرتے ہیں۔“

فرشتوں کے حلقہ جہلائے عرب کا خیال تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ اس کی طرف متعدد مقامات پر قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ﴿وجعلوا للملئكة اللين هم عباد الرحمن﴾ [الزخرف ۱۹] ”انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکیاں (یا بڑیاں) قرار دیا ہے۔“ اور ﴿واصفاكم بالبنين واتخذ من الملئكة قلائم﴾ [نبی اسرائیل ۲۳] ”کیا تمہارے رب نے تم کو بچیوں سے سرفراز کیا اور خود اپنے لیے بیٹیاں رکھی؟“

ان شہادتوں کے مقابلہ میں ایک شہادت بھی عرب کی روایات سے ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جس سے معلوم ہوتا کہ عرب کبھی لفظ جن کا اطلاق حقیقی معنوں میں انسان پر بھی کر دیتے تھے اس کے برعکس تمام شہادہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل عرب ’جن نور انس‘ کو دو مختلف نوع کی مخلوق سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر بدر بن عامر کہتا ہے:

وقد نطقت قواہلنا نسبةً ولقد نطقت قواہلنا التجنن

اور عمر ابن عبد الجار الحارثی کہتا ہے:

قد كنت عندك حولا لائرو عنى فيه روايت عن انس ولا جتنى

اس کے بعد اترت کی یہ حقہ شہادت ملاحظہ ہو۔ جو ہری اپنی کتاب الصحاح میں کہتا ہے:

الجن خلاف الانس سميت بذلك لانها تخطى ولا تروى ر جن بخلاف انس، اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ وہ پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آتے۔“

اور لکن سیدہ کہتا ہے:

الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنابهم عن الابصار ولا نهم استجنوا من الانس فلا يرون ر جن ایک نوع کی مخلوق ہے جس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ نگاہوں سے مخفی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔“

### چہرہ مقامات:

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے چہرہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں:

اول یہ کہ لغت عرب میں جن کے وہی معنی ہیں جو ہماری زبان میں ”چھپے ہوئے“ اور ”پوشیدہ“ کے ہیں اس لفظ کو جب انواع مخلوقات میں سے کسی نوع کے لیے نام کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو ضرور ہے کہ وہ کوئی ایسی نوع ہو جو عادتاً مخفی و مستور ہوتی کہ اس کا ظاہر اور نمایاں ہونا خرق عادت میں سے شمار کیا جائے۔ نہ یہ کہ وہ عادتاً ظاہر اور نمایاں ہو جیسے انسان۔ اس کو مثال کے طور پر یہاں سمجھیے کہ لفظ سیال کا اطلاق ہمیشہ ایسی چیز پر کیا جائے گا جو عادتاً چھپے ہوئے اور نامعلوم ہے۔ اگر کسی وہ جلد پائی جائے تو اس کا جو خلاف معمول شمار کیا جائے گا، حلا پانی۔ لیکن اگر کوئی شخص لفظ سیال کا اطلاق کسی اسی چیز پر کرے جو عادتاً جلد ہو (حلا پتھر) اور جس کا جلد ہونا نہیں بلکہ سیال ہونا خلاف معمول ہو تو آپ یقیناً حکم لگا دیں گے کہ وہ شخص لفظ سیال کے معنی سے باہر ہے اور لفظ کو اس کے غیر معنی موضوع لہ میں استعمال کر رہا ہے اسی طرح

اگر قرآن مجید میں لفظ جن (مخفی و مستور) کا اطلاق کسی ایسی مخلوق پر کیا جاتا جو عادات مخفی و مستور نہیں ہے بلکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے مرئی و محسوس ہے (مثلاً انسان) تو نعوذ باللہ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کتاب کو پیش کرنے والا یا تو مجنون ہے یا لفظ جن کے معنی سے ناواقف ہے۔ یقین مانیے کہ ایسی صورت میں خواہ تمام عجم قرآن پر ایمان لے آتا مگر کوئی عرب تو کبھی اس پر ایمان نہ لاتا۔ کیونکہ وہ جن کا بطور معجزہ و خرق عادت مرئی و محسوس بن جانا تو مان سکتا ہے مگر یہ کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ مرئی و محسوس انسان کو جن کے لفظ سے تعبیر کیا جائے۔ جس وقت کفار عرب نے کہا تھا کہ محمد ﷺ کو کوئی عجیبی شخص قرآن سکھاتا ہے تو اپنے اس دعوے کی تائید میں وہ کوئی دلیل نہ پیش کر سکے، اور جب قرآن نے اس الزام کا جواب یہ دیا کہ ﴿اللسان الذی یدلحدون الیہ اعجمی و هذا لسنن عربی مبین﴾ [النحل ۱۰۳] ”جس شخص کو یہ سکھانے والا بتاتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے حالانکہ قرآن جس زبان میں ہے وہ عربی میں ہے“ تو اس جواب کو سن کر تمام عرب کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ لیکن اگر کہیں اس وقت کفار عرب کو ایک مثال بھی قرآن میں ایسی مل گئی ہوتی جس میں لفظ ’جن‘ کا اطلاق انسان پر کیا گیا ہو تو وہ پلٹ کر جواب دیتے کہ یہ کہاں کی لسان عربی میں ہے جس میں ’جن‘ کا اطلاق انسان پر کیا جا رہا ہے۔

دوم یہ کہ عرب میں پہلے سے ’جن‘ کا نام ایک ایسی فوق الطبیعی غیر جسمانی مخلوق کے لیے موضوع اور شائع و متعارف تھا جو عادات محسوس نہ ہوتی تھی، جس کو کبھی کبھی وہ ’سعالی‘ اور ’فول‘ وغیرہ کی شکل میں دیکھتے تھے اور جس کے متعلق ان کا اعتقاد تھا کہ وہ فوق الطبیعی انداز سے ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پس جب قرآن نے اس شائع شدہ لفظ کو استعمال کیا تو لامحالہ اس کے معنی وہی لیے جائیں گے جن کے لیے وہ پہلے سے وضع کیا ہوا تھا اور شائع تھا۔ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ عربی میں اتارا گیا ہے تاکہ عرب جو اس کے اولین مخاطب ہیں۔ اس کو سمجھ سکیں۔ ﴿انا انزلنہ قرآنا عربیاً لعلکم تعقلون﴾ [یوسف ۲] یہ دعویٰ اسی صورت میں سچا ہو سکتا تھا جب کہ قرآن میں وہی الفاظ اور اصطلاحات اور انداز بیان استعمال کیے جاتے جو عرب میں رائج و معروف تھے، یا اگر اہل عرب کی زبان کے کسی لفظ کو معلوم و متعارف معنی کے سوا کسی خاص معنی میں استعمال کیا بھی جاتا تو وہ اصل لغت کے خلاف نہ ہوتا اور اس خاص معنی کی تشریح کر دی جاتی تاکہ عرب اس کو سمجھ سکتے۔ لیکن آپ لفظ ’جن‘ کے جو معنی بیان کرتے ہیں، نہ کلام عرب میں معلوم و متعارف ہیں اور نہ ان کی کوئی ایسی تشریح ہی قرآن میں ملتی ہے

جس سے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس نام کا وہ مستحق مراد نہیں ہے جو اہل عرب نزدل قرآن کے زمانہ میں عموماً اس سے مراد لیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ کی بات مان لی جائے تو قرآن کا اپنا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ وہ عام فہم عربی میں اترتا ہے۔

سوم یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ عربوں کے اس اعتقاد باطل کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جن اور ملائکہ کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، خدا سے ان کا نسب جوڑتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان اعتقاد کا ابطال اس طرح کیا گیا ہے کہ 'جن' خدا کے شریک نہیں ہیں، نہ اس کی اولاد ہیں، بلکہ وہ بھی اسی طرح خدا کی ایک مخلوق ہے جس طرح انسان اس کی مخلوق ہے، فرق یہ ہے کہ انسان مٹی کے ست سے پیدا کیا گیا ہے اور 'جن' آگ کی پھونک سے۔ مگر احکام خداوندی کے مخاطب دونوں ہیں۔ خدا کے سامنے جواب دہ ہونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور نافرمانی کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے۔ پس انسان کا ان کی عبادت کرنا محض ایک جاہلانہ فعل ہے۔ بلکہ اس میں انسان کے لیے ذلت بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک بالاتر نوع ہے۔ جنوں کے نمائندے 'ابلیس' کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور انکار کرنے پر وہ راندہ درگاہ کیا گیا۔ انسان کو خلافت اور رسالت کے بلند مناصب پر سرفراز کیا گیا اور جنوں کو اس کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ سورہ احقاف کے آخری اور سورہ جن کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ پھر انسانوں ہی میں سے ایک برگزیدہ ہستی حضرت سلیمان کو یہ شرف عطا ہوا کہ جن ان کے تابع کیے گئے۔ یہ تمام باتیں جو قرآن میں عربوں کے اعتقادات باطلہ کی تردید کے لیے کی گئی تھیں، اسی صورت میں باطنی ہو سکتی تھی جب کہ ان میں 'جن' سے مراد وہی مخلوق ہوتی جس کو اہل عرب خدائی میں شریک اور عبادت میں خدا کا ساجھی بناتے تھے۔ ورنہ اگر ان میں 'جن' سے مراد انسان ہی ہوتے تو پھر یہ کسی طرح بھی عربوں کے ادہام کا ابطال کرنے والی نہ ہوتی اور عربوں کے وہ اعتقادات اپنی جگہ رہ جاتے جو وہ اپنے تصور میں جنوں کے متعلق رکھتے تھے۔

چہارم یہ کہ اگر جنوں کے ذکر سے کسی خاص مقام یا بعض مخصوص مقامات پر قرآن کا مقصود دراصل انسانوں یا ان کے کسی خاص گروہ کا ذکر کرنا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو لفظ 'جن' سے تعبیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں نہ ان کو لفظ انسان ہی سے تعبیر کیا گیا؟ خواہ مخواہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کیا حاجت پیش آئی تھی جن سے ناری جن اور خاکی جن کے درمیان التباس واقع ہوتا؟ اس طرح کی تاویلات کے بارے میں یہ ایک اہم اصولی سوال

ہے جس کو ہمارے زمانے کے اکثر نرالی تاویلین کرنے والے حضرات قرآنی الفاظ کے معنی بیان کرتے وقت نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ اس پہلو پر کبھی غور نہیں کرتے کہ جب کسی خاص معنی کو بیان کرنے کے لیے معروف اور شائع الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں اور خود قرآن نے بھی اس معنی کو بیان کرنے کے لیے حسب موقع وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے (اگر واقع میں اس کا مقصود وہاں وہی معنی بیان کرنا ہو) بعض دوسرے الفاظ استعمال کرنا، اور آنحالیکہ وہ الفاظ اس معنی کے لیے شائع اور متعارف نہ تھے اور نہ ہیں؟ مثال کے طور پر اگر واقع یہی تھا کہ حضرت سلیمان کو مصر سے یا دوسرے مقامات سے اعلیٰ درجہ کے خواص، ظروف ساز، معمار اور سنگ تراش آدمی فراہم کر دئے گئے تھے تو یہی کہہ دینے میں کون سا امر مانع تھا کہ ہم نے سلیمان کو ایسے اور ایسے آدمی فراہم کر دیے تھے۔ کیا اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کا کافی ذخیرہ موجود نہ تھا کہ مجبوراً اس کو جن اور شیاطین کے الفاظ کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی؟<sup>(۱)</sup> کیا خود اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کا ذکر کرنے کے مواقع پر ان کو انسان یا بنی آدم کے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا ہے؟ اور اگر خاص آدمیوں میں کوئی خصوصیت ایسی تھی کہ ان کو جن اور شیاطین کے استعاروں میں ادا کرنا ضروری تھا تب بھی اس تصریح میں کیا چیز مانع تھی کہ یہ جن بنی آدم سے تھے؟

قرآن میں معنی جن کی تصریح:

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے لفظ جن کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں جن اور انسان کی حقیقتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں اور بالفاظ صریح ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ بتایا گیا ہے کہ جن ایک ناری الاصل مخلوق ہے اور انسان ارضی الاصل ہے۔ لفظ جن کو استعمال کرنے کے ساتھ جب اس کے معنی کی یہ تصریح بھی خود قرآن ہی نے کر دی ہے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جہاں کہیں وہ الفاظ استعمال ہوں وہاں اس کے وہی معنی لیے جائیں جن کی تصریح کی جا چکی ہے۔<sup>(۲)</sup> اس کے

(۱) [ملاحظہ ہو: سورہ سبأ، کوع ۲، سورہ ص، ر کوع ۳]

(۲) [بلاشبہ قرآن میں دو جگہ جن کا لفظ سانپ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ لیکن اول تو خود قرآن میں دوسری جگہ اس چیز کے لیے ثعبان اور حیة کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہو گیا کہ وہاں جن کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے لفظ جن بمعنی سانپ عربی میں عام طور پر مستعمل ہے اور موقع و محل سے ہر عربی دان خود جان لیتا ہے کہ یہاں جن سے مراد سانپ ہے]

خلاف کسی اور معنی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس دوسرے معنی کی بھی کوئی تصریح قرآن میں موجود ہو، یا پھر آپ کے پاس ایسے قوی دلائل موجود ہوں جن کی بنا پر قرآن کی تصریح کے خلاف معنی میں اس لفظ کو لینا جائز ہو۔ اگر پہلی صورت ہے تو براہ کرم کوئی ایک ہی آیت ایسی پیش فرمائیے جس میں 'جن' بہ معنی 'انسان' کی ویسی ہی تصریح ہو جیسی کہ 'جن' بہ معنی 'آتشیں مخلوق' کی تصریح ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کو حق ہے کہ آپ کے دلائل کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا وہ اس حد تک قوی ہیں کہ قرآن نے 'جن' کے جس معنی کی تصریح کی ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے تجویز کردہ معنی کو قبول کیا جائے۔

جن بمعنی انسان کی پہلی دلیل:

مولانا... نے جس بناء پر 'جن' کے انسان ہونے کا گمان کیا ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: ".....'جن' کا لفظ قرآن میں صرف کئی سورتوں میں آیا ہے۔ مدنی سورتوں میں کہیں نہیں آیا اور انس کا لفظ بلا جان کے سارے قرآن میں کہیں مستعمل نہیں ہوا ہے۔ اس سے خیال ہو سکتا ہے کہ جن و انس کے الفاظ جہاں جہاں ساتھ ساتھ آئے ہیں وہاں جن کے معنی اس آتشیں جن کے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے ہی ایک طبقہ کے ہیں۔"

میں پوچھتا ہوں کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ کسی سورت کے کئی یا مدنی ہونے اور جن کے ساتھ انس کا لفظ آنے یا نہ آنے کو لفظ 'جن' کے معنی میں آخر کس قسم کا دخل حاصل ہے؟ آپ ان تمام آیتوں کو نکال کر دیکھ لیجئے جن میں 'جن' اور 'انس' کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ کسی جگہ بھی آپ کوئی اشارہ ایسا نہ پائیں گے جو انس کے عام اور جن کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ جہاں کہیں جن اور انس کے الفاظ معطوف و معطوف علیہ کی حیثیت سے آئے ہیں وہاں معطوف نہ تو عطف العام علی الخاص کے طور پر آیا ہے نہ عطف الخاص علی العام کے طور پر اور نہ عطف الشیء علی مراد فیہ کے طور پر۔ ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم کے عطف کے حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ سامع کو پہلے سے اس کا علم ہو کہ معطوف و معطوف علیہ میں سے ایک عام ہے اور دوسرا خاص، یا دونوں مترادف ہیں۔ مثلاً ﴿وَرَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [نوح ۲۸] میں سامع خود سمجھ سکتا ہے کہ عطف، عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے۔ یا ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ [الاحزاب ۷] میں صاف معلوم

ہو جاتا ہے کہ عطف، عطف الخاص، علی العام کے قبیل سے ہے۔ **یَلْقَى قَوْلَهُ كَذِبًا** و مینا میں عطف کا عطف الیٰ علیٰ مراد فیہ کے قبیل سے ہونا ہر وہ شخص جانتا ہے جو کذب اور مینا کے معنی سے واقف ہے۔ پس جب جن و انس میں یہ تین صورتیں نہیں ہیں تو لامحالہ طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ ان دونوں کے درمیان واؤ عطف مطلق معیت کے لیے ہے۔ کیونکہ لغت سے یا عرف سے یا کسی قرینہ عقلی سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص یا تراتوف کا تعلق ہے۔ اگر قرآن کی اصطلاح خاص میں ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص کا تعلق ہوتا اور بغیر کسی تصریح کے وہ ان دونوں کے درمیان محض واؤ عطف کا استعمال کرتا تو یہ اس کے بیان کا قصص ہوتا اس مقصد کے لیے اس کو کم از کم **الانس والجن معہم** ہی کہنا چاہیے تھا تا کہ سامعین کو معلوم ہو جاتا کہ جن کے نام سے جس گروہ کو یاد کیا جا رہا ہے وہ لغت اور عرف عام کے خلاف انسانوں کا ایک گروہ ہے۔

لیکن ہم کو عطف و مطوف علیہ کی بحث میں بھی پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدی کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں جن و انس کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں وہاں جن سے مراد انسانوں ہی کا ایک طبقہ مراد ہے۔ اب آپ ان تمام آیات کو پڑھ جائیے جن میں یہ دونوں لفظ یکجا استعمال ہوئے ہیں۔ اگر خود انہی میں متعدد آیتیں آپ کو لیکر لیا جائیں گی جن میں ان دونوں گروہوں کی مختصرت صاف نظر آتی ہو تو عدی کا دعویٰ آپ باطل ہو جائے گا۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْتُونٍ وَالْجَنِّ حَقْقَةً مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الجر ۲۷، ۲۸] ”ہم نے انسان کو کالے سرے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے لوہی گری سے پیدا کیا تھا“

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَرْجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن ۲۸، ۲۹] ”اس نے انسان کو پڑی کی طرح کھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے“

﴿فَبِمَنْذَرٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْإِنْسَانِ عَيْنٌ وَلَا مِنَ الْجَانِّ﴾ [الاعراف ۳۶] ”پس اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔“

﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الرحمان ۵۶] ”ان سے پہلے ان حمدوں کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔“

﴿كُلٌّ مِنْ جِئَالٍ مِنَ الْإِنْسَانِ﴾ [الجن ۷] ”انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پتہ مانگا کرتے تھے۔“

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ائْتُوا بَعْدِي أَلَيْسَ اللَّهُ بِمُحْكِمٍ لِّأَمْرِ إِتْيَانِهِمُ بِحُكْمٍ يُحْكَمُهُ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الصُّعُورِ﴾ [سورہ اعراف، ۴۰، ۴۱] جس بقدر اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا پھر ملائکہ سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہیں کو پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے ہمارا وہی تو ہے نہ کہ یہ۔ دراصل یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر درحقیقت انہی پر ایمان رکھتے تھے۔

﴿وَجِئُوا يَوْمَ الْحُجَّةِ نَسِيًا﴾ [سُفَّت ۱۵۸۷] ”اور انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان رشتہ جوڑ رکھا تھا۔“

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الصُّعُورِ﴾ [سُفَّت ۱۵۸۷] اور جس دن خدا ان سب کو جمع کرے گا تو فرمائے گا: اے گروہ جن تم نے تو انسانوں میں سے جنوں کو اپنے دامن میں گرفتار کر لیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے کہ پھر وہ گارہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اب اس مدت کو بیچ گئے جنوں نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔“

ان آیات سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ کہ جن اور انس دو الگ اور متباہن الحقیقت گروہ ہیں؟ یا یہ کہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا جز ہے۔

### دوسری دلیل:

(مگر یہ جنات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ۔۔۔ ”انہیں اور اس کی ذریت کو، جو حسب تصریح قرآن جن ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیر مرئی بیان کیا ہے: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ مَّا شَاءُوا﴾ [سورہ اعراف ۳۲] بخلاف اس کے کہ حضرت سلیمان کے پاس جو جن تھے وہ نظر آتے تھے اور انسانوں کے سے کام کرتے تھے۔ لہذا حضرت سلیمان والے جن وہ آنکھیں جن نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں۔“

اس کے جواب میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سلیمان والے جنوں کے حلق قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ نظر آتے تھے، انسانی شکل میں تھے اور حضرت سلیمان کے علاوہ عام لوگ بھی ان کو دیکھتے تھے۔ لہذا قرآن کی جو آیت آپ استدلال میں پیش فرمادے ہیں وہ ان آیات کے خلاف نہیں ہے جن میں حضرت سلیمان



والے جنوں کا ذکر آیا ہے۔ رہا آپ کا یہ گمان کہ وہ انسانوں کے سے کام کرتے تھے، تو یہ بھی قرآن سے ثابت نہیں۔ قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح پانی میں غوطے لگاتے تھے یا انسانوں کی طرح برتن اور عمارتیں بناتے تھے، یا انسانوں کی طرح باندھے جاتے تھے؟ وہاں تو مطلقاً غواصی اور ظروف سازی اور معماری وغیرہ کا ذکر ہے اور محض اس ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ غواصی وغیرہ انسانوں کی سی غواصی وغیرہ تھی۔ تا وقتیکہ یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ غواصی بغیر اس طریقے کے ممکن نہیں ہے جس طریقہ سے انسان غوطہ لگاتا ہے۔ اور ظروف سازی وغیرہ انہی طریقوں میں منحصر ہیں جنہیں انسان استعمال کرتے ہیں۔ اگر محض یہ بات کہ جو فضل انسان کرتا ہے وہ کسی ہستی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ حکم لگانے کے لیے کافی ہو کہ وہ ہستی لاحالہ انسان ہی ہونی چاہیے، تو ایک شخص نعوذ باللہ خود اللہ کو انسان کہہ سکتا ہے کیونکہ قرآن میں بعض وہ افعال انسان کرتے ہیں جو خدا کی طرف منسوب کیے گئے ہیں مثلاً بولنا، دیکھنا، سننا وغیرہ۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس پہلو سے قطع نظر کر کے یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ انسانوں کی طرح نظر آتے تھے، اور انسانوں ہی کی طرح وہ سب افعال کرتے تھے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ تب بھی جو آیت آپ پیش فرما رہے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس گروہ مخلوقات سے خارج تھے جو نظر نہیں آتا۔ اس لیے کسی مخلوق کا ایسا ہونا کہ وہ انسان کو نظر نہ آئے، اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا نظر آنا ممکن ہی نہ ہو۔ اور بطور خرق عادت بھی وہ نظر نہ آسکے۔ قرآن میں شیاطین جن کے غیر مرئی ہونے کی صفت تو صرف ایک ہی جگہ بیان ہوئی ہے مگر ملائکہ کی اس صفت کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ مثلاً

﴿انہی ارضی مالائتروں﴾ [انفال ۲۸] ”یعنی شیطان نے اپنے اولیاء سے کہا کہ میں فرشتوں کی وہ فوجیں دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں۔“

﴿فانزل اللہ سکتینہ علیہ وایدہ بجنود لم تر وہا﴾ [التوبہ ۱۲] ”پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اس پر اتاری اور ایسے لشکروں سے اس کی تائید کی جن کو تم نہ دیکھتے تھے۔“

﴿وانزل جنودالم تر وہا﴾ [التوبہ ۲۶] ”اور اللہ نے وہ لشکر اتارے جن کو تم نہ دیکھتے تھے۔“

﴿اذ جاء تکم جنود فارسنا علیہم ریحاً و جنودا لم تر وہا﴾ [ازاب ۹] ”جب تم پر فوجیں حملہ آور ہوئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔“

﴿یوم یرون الملائکة لا بشریٰ یومئذ﴾ [الفرقان ۲۲] ”جس روز یہ لوگ ملائکہ کو دیکھیں گے، اس روز مجرموں کی خیر نہ ہوگی۔“

اس کے باوجود متعدد مواقع پر قرآن مجید ہی نے بیان کیا ہے کہ ملائکہ انسانی شکل میں آئے ہیں نہ صرف انبیاء نے بلکہ عام انسانوں تک نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان بہت سی مستثنیٰ مثالوں کو دیکھ کر آپ نے ملائکہ کے متعلق بھی کیوں نہ کہہ دیا کہ ان سے مراد بھی انسانوں ہی کا ایک طبقہ ہے؟ غیر مرئی ہونے میں دونوں برابر۔ انسانی شکل میں ظاہر ہونے کے واقعات ملائکہ میں متعدد اور جنوں میں صرف ایک۔ باوجود اس کے تعجب ہے کہ آپ ملائکہ کے متعلق تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بطور معجزہ و خرق عادت بار بار وہ انسانی صورت اختیار کرتے رہے ہیں۔ لیکن جنوں کے متعلق اس قسم کا ایک واقعہ سن کر آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ حضرت سلیمان کی غیر معمولی دعا کو قبول کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر ہوا اور پرندوں کو ان کے تابع کیا تھا اور ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اسی طرح بطور خرق عادت اس نے جنوں کو بھی مرئی و محسوس بنا دیا ہوگا۔ اس کے برعکس آپ قرآن کی تمام تصریحات اور لغت عرب کے خلاف یہ تاویل کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ صرف اس خاص موقع پر انسانوں کو جن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور مولانا..... تو اس ایک مثال سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کی ایک مستقل قسم کا نام ہی جن فرض کر لیتے ہیں۔ درآنحالیکہ اس کے لیے کوئی ثبوت ان کو قرآن سے نہیں ملا اور اس کے خلاف قرآن مجید کی صریح آیات اور کلام عرب کی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری کا بار اٹھانے سے پہلے کیا اس بات پر غور کر لینا بہتر نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر مرئی مخلوق کو مرئی بنا دینا کون سا ایسا مستبعد اور محال امر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اتنی مشقت اور اتنے تکلف کی حاجت پیش آئے؟ جب آپ نے ملائکہ جیسی لطیف مخلوق کا مرئی ہونا مان لیا تو شیاطین جیسی کثیف مخلوق کے مرئی ہو جانے میں اتنا استبعاد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جنوں کی جو کچھ حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ایک آتشیں مخلوق ہیں لیکن جبریل فرشتے کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ وہ روح اور وہ بھی روح اللہ ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فارسلنا الیہاروحنا فعمثل لہا بشرا سويا﴾ [مریم ۱۷] ”پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے اچھے خاصے آدمی کی شکل میں نمودار ہوئی۔“

﴿وانه لتنزىل رب العالمين نزل به الروح الامين﴾ [الشعر/۱۹۲، ۱۹۳] ”یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اس کو لے کر روح الامین اترا۔“ جب ”روح اللہ“ جیسی مجرد از عوارض مادہ شے کو باذن الٰہی مرئی ہو جانا ممکن ہے تو ”نار السوم“ جیسی چیز کا، جو مادے اور مادی تکالیف سے قریب تر ہے<sup>(۱)</sup> جسمیت اختیار کر لینا کیوں ناممکن یا بعید از عقل و قیاس ہے کہ اس سے بچنے کی خاطر قرآن میں تاویلات بعیدہ کا دروازہ کھولا جائے؟ قرآن کی روح سے تو صرف باری تعالیٰ ہی کی ذات الٰہی ہے کہ انسان کی نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں ﴿لا یبصر کہ الابصار وهو یبصر﴾ [انعام/۱۰۴] اور ﴿قال رب اونی انظر الیک قال لن ترانی﴾ [اعراف/۱۳۳] صفت بالذات صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ صفت بالذات نہیں ہے۔ البتہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ عادتاً نظر نہیں آتیں۔ لیکن اگر خدا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے کہ خواہ ان کو مرئی کر دے یا ہماری نظروں کو اتنا تیز کر دے کہ ان کی لطیف تر صورتوں کو دیکھ سکیں۔

تیسری دلیل:

آپ نے اور مولانا ..... نے اس بات سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ..... ”حضرت سلیمان کے پاس جو غوطہ خور اور معمار وغیرہ تھے۔ ان کو شیاطین کہا گیا ہے اور شیاطین کا اطلاق جنوں کی طرح انسانوں پر بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان معماروں اور غوطہ خوروں کو ان کے مرئی ہونے اور انسانوں کے سے کام کرنے کی بنا پر شیاطین الائنس کیوں نہ سمجھا جائے۔“

(۱) [جنوں کی تخلیق جس آگ سے ہوئی ہے وہ میرے نزدیک وہ آگ نہیں ہے جو کیماوی احتمالات سے مادی اجسام میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ ایک خاص طور کی آگ ہے، ہماری ان مادی آگوں سے مختلف، چونکہ انسانی زبان میں اس کو تعبیر کرنے کے لیے ”نار“ سے زیادہ اقرب کوئی لفظ نہ تھا، اس لیے حق تعالیٰ نے اس کو اس لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ”اللہ نور السموات والارض“ سے مراد شعاع نہیں ہے جو مادی نیرات سے نکلتی ہے، بلکہ ایک غایت درجہ مجرد اور منزہ حقیقت ہے جس کے تصور سے انسان کے ذہن کو روشناس کرنے کے لیے لفظ نور سے زیادہ اقرب اور کوئی لفظ نہیں۔ تاہم اگر آپ کی یہ رائے مان لی جائے کہ جن ایسی مادی آگ کے بنے ہوئے ہیں جو آسمان اور کاربن کے اشتعال مواصلت سے پیدا ہوتی ہے تو روحانی فرشتوں کے مقابلہ میں ان مادی جنوں کا مرئی و محسوس بن جانا تو اور بھی زیادہ قریب از عقل و قیاس ہے۔]

اس کو دلیل کے بجائے میں صرف غلط فہمی کہوں گا۔ اول تو قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے کارگروں اور خادموں کے لیے صرف شیاطین ہی کا لفظ نہیں آیا بلکہ ’جن‘ کا لفظ بھی آیا ہے

مثلاً

﴿وَحَشْرٌ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ [النحل ۱۷۱] ”اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر از قسم جن و انس و پرند جمع کیے گئے۔“

﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ..... يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ..... فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

الغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمَهِينِ﴾ [سبا ۱۲-۱۳]

”اور جنوں میں سے جو اس کے (حضرت سلیمان) آگے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے..... جو کچھ وہ چاہتا وہ اس کے لیے بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، مورتیں اور حوض جیسے بڑے بڑے تھاں اور ایک جگہ جمی رہنے والی بھاری دیکھیں..... پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو ان کو اس کی موت کی خبر جس چیز نے دی وہ کچھ اور نہ تھا، محض زمین کا کیرا جو سلیمان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان گر پڑے تب ان جنوں پر یہ راز کھلا کہ وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک اس ذلیل غلامی کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔“<sup>(۱)</sup>

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ غوطہ خور اور معمار شیاطین ’جن‘ کی قسم سے تھے، شیاطین الانس نہ تھے۔ دوسرے یہ بات آپ کی اور مولانا کی نظر سے پوشیدہ رہ گئی کہ قرآن مجید میں کہیں مطلقاً الشیطان اور الشیاطین بول کر انسان مراد نہیں لیے گئے ہیں، بلکہ ابلیس اور اس کی ذریت ہی مراد لی گئی ہے۔ ہاں اگر کہیں انسانوں کے کسی گروہ کے لیے

(۱) [یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ’جن‘ کے ساتھ انس کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ جن وہ جن تھے جن کو غیب دانی کا گھنڈ تھا اور جنہیں اہل عرب بھی عالم الغیب سمجھتے تھے۔ انہی جنوں میں سے ایک گروہ بعد میں نبی ﷺ سے قرآن سن کر اپنے دوسرے ہم قوموں سے کہتا ہے کہ اب ہمارے غیب دانی کے وسائل ہم سے چھن گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ ﴿وَأَنَا لِمَسْئَلِ السَّمَاءِ فُجُودًا مَا مَلَئَتْ خُرُشًا شَدِيدًا وَشَهَابًا وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن] اس آیت میں غیب کی خبریں حاصل کرنے کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی کچا کہ کوئی انسان اس پر قادر ہو]

شیاطین کا لفظ بطور صفت استعمال کیا گیا ہے تو ایسے ہر موقع پر صراحتہ یا کنیتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں شیاطین سے مراد انسان ہیں، جیسے ﴿و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن﴾ [الانعام ۱۱۳] ﴿واذ خلوا الی شیاطینہم قالوا انامعکم﴾ [البقرہ ۱۴۲] ایمان بالکتاب کا مقتضی:

اس بحث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کوئی ایسی قوی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنا پر سیدنا سلیمان کے قصہ میں، یا کسی دوسرے مقام پر، لفظ 'جن' کے معنی متعین کرنے میں اس معنی سے انحراف کرنا جائز ہو جس کی تصریح خود قرآن مجید متعدد مواقع پر کر چکا ہے۔ اور جب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو کسی شخص کے لیے جو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ جس کو خدا نے 'جن' کہا ہے اور آدمی نہیں کہا اس کو وہ اپنے قیاس سے آدمی کہہ دے۔ ایسا قیاس کرنے کے لیے اگر کوئی سبب داعی ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ عادت جاریہ، جس کا مشاہدہ اور ادراک کرنے کے ہم خوگر ہیں، ان واقعات کے خلاف ہے جو بعض مواقع پر قرآن مجید میں جنوں کی طرف منسوب کیے گئے ہیں لیکن اسی طرح آگ کا ایک خاص شخص کے لیے سرد ہو جانا، لکڑی کا ایک خاص موقع پر اڑنا دہانہ جانا، دریا کا ایک خاص وقت میں پھٹ کر راستہ دے دینا، ایک شخص کا مٹی کے پرند بنا کر ان میں جان ڈال دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا، چند آدمیوں کا ایک غار میں تین سو سال تک سوتے پڑے رہنا اور پھر بھی زندہ رہنا، ایک شخص کا مرنے کے سو برس بعد جی اٹھنا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا جوں کا توں بالکل تازہ حالت میں پانا، ایک شخص کا ساڑھے نو سو برس تک زندہ رہنا اور وہ بھی یوگا کی مشقوں سے نہیں بلکہ ایک منکر قوم کے مقابلہ میں تبلیغ دین کی تھکا دینے والی مشقوں کے ساتھ، یہ اور ایسے ہی متعدد واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور سب اس عادت جاریہ کے خلاف ہیں جس کو دیکھنے کے ہم خوگر ہیں۔ اگر ہم قرآن کو خدائے عظیم و خیر اور قادر و توانا کا کلام نہ مانیں تو سرے سے ان واقعات کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محض اس بنیاد پر ان سب کو جھٹلایا جاسکتا ہے کہ ایسا ہوتے ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ دیکھا۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن اس خدا کا کلام ہے جو ازل سے ابد تک عالم وجود کے ہر چھوٹے بڑے واقعہ کا حقیقی علم رکھتا ہے اور خدا وہ خدا ہے جس کے معجزے ہم کو سورج اور سیاروں اور زمین اور خود اپنے وجود میں ہر آن نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی غیر معمولی اور

خلاف عادت واقعہ کو بعینہ اسی طرح تسلیم کرنے میں تامل نہیں ہو سکتا جس طرح وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعات تو کیا چیز ہیں، اگر قرآن میں کہا گیا ہوتا کہ ایک وقت میں چاند کو ماؤنٹ ایورسٹ پر لا کر رکھ دیا گیا تھا، اور کسی وقت خدا نے سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالا تھا، تب بھی ایک مومن صادق کو اس بیان کی صداقت میں ایک لمحہ کے لیے شک نہ ہو سکتا تھا، اور نہ کسی طرح تامل کر کے اس کو عادت جاریہ کے مطابق ثابت کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس لیے کہ یہ کائنات جس کی وسعت کا تصور کرنے سے ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، اور اس کائنات کی ہر شے، حتیٰ کہ گھاس کا ایک تنکا اور کسی جانور کے جسم کا ایک بال بھی اپنی پیدائش میں درحقیقت اتنا ہی انگیز معجزہ ہے جتنا چاند کا ایورسٹ پر آ جانا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ فرق اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ ایک قسم کے واقعات کو دیکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم کو ان کے معجزہ ہونے کا شعور نہیں ہوتا، اور دوسری قسم کے واقعات شاذ ہیں اس لیے ان کی خبر جب ہم کو دی جاتی ہے تو ہمیں اچنبھا ہوتا ہے اور ہماری عقل جو صرف مشاہدات و تجربات پر اعتماد کرنے کی خوگر ہو گئی ہے ان کو باور کرنے میں جھکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے واقعات کے متعلق جب ہم کو کوئی خبر دی جائے تو ہمیں حق ہے کہ ان کے وقوع کے متعلق قابل وثوق شہادت طلب کریں۔ لیکن ایک مومن کے لیے قرآن سے بڑھ کر قابل وثوق شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ دل سے یقین رکھتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے فضل پر خود خدا ہی کی شہادت سب سے زیادہ محترم ہے۔ البتہ جو شخص قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک رکھتا ہو اس کو حق ہے کہ قرآن کے ہر بیان میں شک کرے خواہ وہ عادت جاریہ کے موافق ہو یا مخالف!



## باب چہارم (۴)

## شیطان کے مکر و فریب اور مکروہ عزائم.....!

## شیطان انسان کا ازلی دشمن.....!

شیطان کو انسان کا ازلی دشمن بنایا گیا ہے اور اس کی ہمہ وقت یہ کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کرے اور جس طرح خود اسے جہنم میں جانا ہے اسی طرح انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے۔ شیطان کے ان مکروہ عزائم سے، انسان کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر ۵۸]

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو! شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گردہ (پیر کاروں) کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم شیطان کو دشمن سمجھو کیونکہ اسے میں نے تمہارا دشمن بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس سے دوستی، محبت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اس کے بارے میں وہی رویہ اپناؤ جو تم اپنے دشمنوں کے لیے اپناتے ہو اور انسان اپنے دشمن کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ ایک تو اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ دوم یہ کہ اس سے بچاؤ اور اپنے تحفظ کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ سوم یہ کہ انسان وہ کام کرتا ہے

جس سے اس کے دشمن کو نقصان، دکھ، افسوس اور تکلیف ہو اور چہارم یہ کہ اپنے دشمن سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان شیطان کو انہی معنوں میں اپنا دشمن سمجھے تو وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی سے بچ کر اس کی رضا کا مستحق بن جائے گا ورنہ پھر شیطان کا مطیع فرمان بن کر اپنے رب کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ انسان چونکہ ان کاموں کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے جو شیطان کی خواہش و منشا کے عین مطابق ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَذِّنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمِعُوا لَكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَوَلَّوْا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِوَاهُ الَّذِي تَعْبُدُونَ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ لَعِنَآ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ﴾ [الكهف: ۵۰]

”جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ (ابلیس) جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں (اسے دوست بنانے والے ظالم لوگ ہیں اور) ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔“

اس آخری جملے کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے: ”ظالموں نے کیا برا بدل اختیار کیا ہے؟“ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری اور دوستی اختیار کر لی ہے انہوں نے خود اپنے لیے ہی بہت برا کیا ہے۔

شیطان انسان کا دشمن ہے (چند قرآنی آیات)

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [يوسف: ۵۰]

”بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الاسراء: ۳۰]

”یقیناً شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔“

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُوْلًا﴾ [الفرقان: ۲۹]



”اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دعا دینے والا ہے۔“

﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الزخرف ۶۲]

”تمہیں (سیدھی راہ سے) شیطان روک نہ دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

﴿إِنَّمَا أَعْتَدْنَا لَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْبَادِنَا هَذَا

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [س ۶۰، ۶۱، ۶۲]

”اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ

کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔

شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے!“

﴿بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْبَادِنَا لِيُفْتِنَكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا

الشَّيْطَانَ أَوْلِيًّا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف ۲۷]

”اے نبی آدم! ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے

والدین کو (فتنہ میں مبتلا کر کے) جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے (جنتی) لباس

اترادیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے

دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست

بنادیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

### شیطان کے مکرو فریب اور مکروہ عزائم

شیطان نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر مہلت مانگ رکھی ہے

کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ یہ اس نے محض دعویٰ ہی نہ

کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر چیلنج بھی کیا جیسا کہ مندرجہ ذیل سرخی کے

تحت آنے والی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے:

## شیطان نے گمراہی کی لائن کیوں اور کب اختیار کی؟

یہ تو اگرچہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ شیطان کے ذریعے انسانوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا اور خود شیطان کو گمراہی کا علمبردار بنا دیا جائے گا مگر اس کا عملی اظہار حضرت آدمؑ کی تخلیق کے بعد ہوا۔ یہ کیوں اور کس طرح ہوا اس کی تفصیل قرآن مجید میں اس انداز میں بیان ہوئی ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍمَسْنُونٍ فَاِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقُوْا لَهٗ سَجْدًا الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِیْسَ اَبٰی اَنْ یَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَکَ الْاِنْکُوْنُ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَاسْجُدًا لِشَیْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍمَسْنُوْنٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاَنْتَکَ رَجِیْمٌ وَّاَنْ عَلَیْکَ اللَّعْنَةُ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یَعْتُوْنَ قَالَ فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ قَالَ رَبِّ بِمَا عُوْذِیْ لَا زَیْنٌ لِّهٖمْ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ اَجْمَعِیْنَ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَبِیْنٍ اِنْ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَن اَتٰکَ مِنَ الْغَوٰیِبِ وَاِنْ جَهِنَّمُ لَمَوْعِلُهُمْ اٰجْمَعِیْنَ﴾

”اور (وہ وقت یاد کرو) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھکناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا: اے ابلیس! ”تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟“ بولا: مجھے گورانہ ہوا کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھکناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بلاشبہ ہم جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ وہ کہنے لگا: میرے رب! پھر مجھے اس دن تک (زندہ رہنے کی) مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھے مہلت دی جاتی ہے، اس دن تک جس کا وقت (ہمیں) معلوم ہے۔ وہ

بولا: یارب! چونکہ تو نے مجھے (آدم کے ذریعہ) بہکا دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو (ان کے گناہ) خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، الایہ کہ تیرے چند غلص بندے (بچ جائیں تو اور بات ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، میرے بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا بس صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ [المجر ۲۸-۳۳]

شیطان لعین کے اسی خلیج یا مکروہ ارادے اور ان سے خبردار رہنے کو قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے:

لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَا تَحْلُنْ مِنْ عِبَادِكَ نَهِيًا مَفْرُوضًا وَلَا صَلْتَةً وَلَا مَنِيَةً وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَتَّكِنِ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَغْتَبِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعْلَمُهُمْ وَيُمْنِيَهُمْ وَمَا يَعْلَمُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْلُونَ عَنْهَا مَحِضًا [النساء ۱۱-۱۲]

”اس (شیطان) پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس (شیطان) نے (اللہ تعالیٰ) سے کہا تھا کہ ”میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزو دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جو پاپوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ حکم بھی دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست (اور سرپرست) بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا اور امیدیں دلاتا ہے اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔“

### شیطان کی پیروی نہ کرو!

قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیطان کی فرمانبرداری نہ کرو اور جن مخلوط پروہ چلتا ہے ان پر تم نہ چلو۔ اس مفہوم کی چند آیات درج ذیل ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾  
 ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔“ [البقرہ ۲۰۸]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [النور ۲۱]  
 ”اے ایمان والو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔“

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [الانعام ۱۳۲]  
 ”(اے ایمان والو!) جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقتم نہ چلو“  
 واضح رہے کہ شیطان کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کی جائے۔ گویا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اسے بجالانا شیطان کی پیروی کرنا ہے کیونکہ شیطان کا مشن ہی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا نافرمان بن جائے۔

### شیطان کی پیروی کرنے والا نقصان اٹھائے گا:

جو لوگ اللہ کی بجائے شیطان کی پیروی کریں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں جہنم میں شیطان کے ساتھ ہوں گے۔ مثلاً  
 ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ وَلْيَا مَنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا﴾ [النساء ۱۱۹]  
 ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے، وہ واضح خسارے سے دوچار ہو گیا“  
 ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء ۳۸]  
 ”جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، تو وہ بدترین ساتھی ہے۔“

﴿قَرِينًا هَدَىٰ وَقَرِينًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الاعراف ۳۰]

”ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔“

﴿اسْتَعُوذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ فِي الْأَذْذَيْنِ﴾ [المجادلة: ۱۹/۲۰]

”ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔“

### شیطان اپنی پیروی سے اظہار برأت کر دے گا!

شیطان کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے شیطان مختلف دَاوَد و فریب تو استعمال میں لاسکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کسی شخص کو زبردستی گمراہ کر دے یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد شیطان اہل جہنم کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کر دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوَّأَأْتُسْكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [ابراہیم: ۲۲]

”اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ: اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں (اپنی طرف) بلا یا تو تم نے میری بات مان لی لہذا (آج) مجھے ملامت نہ کرؤ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد ری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں بلاشبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔“



## باب پنجم (۵)

## شیطان کی چند تاریخی وارداتیں .....!!

## قصہ حضرت آدمؑ اور ابلیس کا!

گزشتہ صفحات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ ہر ممکنہ طریقے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب آئندہ صفحات میں ہم شیطان کے چند تاریخی حملوں کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہم حضرت آدمؑ اور حوا کے بارے میں بتائیں گے کہ شیطان نے انہیں کس طرح بھٹکایا اور اللہ کی نافرمانی کروا کر جنت سے نکلوا دیا۔ یہ تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے ان میں سورہ اعراف کا مقام اپنے موضوع و مدعا کے اعتبار سے زیادہ جامع ہے، اس لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے اور حاشیہ میں قابل توضیح مقامات کی تفسیر مولانا عبدالرحمن کیلائی کی تفسیر ”تیسیر القرآن“ سے ماخوذ ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنَاكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَيَا أَدَمُ

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَلُوْمِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَنَّا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَعَرَضَاتٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا إِنَّا أخطأْنَا وَتَوَلَّوْنَا وَمِنهَا تَحَرَّجُونَ ۝ ﴿الاعراف: ۳۵ تا ۳۸﴾

”ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: ”جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟“ کہنے لگا: میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ (۱) سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیچے اتر یہاں سے۔ تیرا حق (۲) نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ لہذا اٹکل جا، تو ان لوگوں سے ہو گیا جنہیں کو (ذلیل) بن

(۱) [آگ اور مٹی کے خواص کا تقابل: ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے، آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے مگر مٹی میں بغیر محنت شاقہ کے یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل، غلے اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، مٹی کی طبیعت میں انکسار اور تواضع ہے۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور راندہ درگاہ الہی بن گیا اور آدم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اس نے گناہ کی معافی مانگ لی اور وہ اللہ کے مقرب بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہی وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے۔]

کر رہنا پڑتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا: ”اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھے یہ مہلت (۳) دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا: تو نے مجھے گمراہی میں (۴) مبتلا کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر (گھٹات لگا کر) بیٹھوں گا پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے دائیں سے، بائیں سے غرض ہر طرف سے گھیروں گا (اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا) اور تو ان میں سے اکثر کو

(۲) [حقیقتاً ابلیس کے تین قصور تھے: ایک اللہ کے حکم کو نہ ماننا، دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا، تیسرے اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم کو حقیر سمجھا۔ لہذا اس پر اللہ کی لعنت و پھنکار ہوئی اور وہ ذلیل و خوار ہوا اور یہ لعنت و پھنکار ہمیشہ اس کے لیے اس کا مقدر ہوگئی۔]

(۳) [ابلیس کے عزائم: شیطان چونکہ سیدنا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا اس لیے وہ سیدنا آدم کا دشمن بن گیا اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا اور ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب سیدنا آدم کو فرار دیا اور قیامت تک اللہ سے مہلت بھی مانگی اور آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورغلانے کا اختیار بھی مانگا تو اللہ نے اسے یہ اختیار دے دیا۔ اس عرصے میں شیطان سیدنا آدم اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی فی الواقع خلافت ارضی کا اہل نہیں ہے اور میں نے جو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس معاملہ میں میں ہی راہ راست پر تھا۔]

(۴) [ابلیس کا اللہ پر الزام: ابلیس نے مزید جرم یہ کیا کہ اپنی اس نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے فروتر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت اور پندار کو ٹھیس پہنچی اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا اور چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے لہذا اب جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا اسے اور اس کی اولاد کو ہر جیلے بہانے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرمانبردار اور شکر گزار ہوں گے۔]



شکر گزار نہ پائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یہاں سے نکل جا۔ تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے، (یاد رکھ!) انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے سمیت<sup>(۵)</sup> ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم! تو اور تیری بیوی دونوں<sup>(۶)</sup> اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، انہی کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا: ”تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لئے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔“ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ<sup>(۷)</sup> ہوں، چنانچہ ان دونوں کو دھوکا دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر

(۵) [ یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو تیرے بھڑے میں آ جائیں گے وہ سب جہنم میں تیرے ساتھی ہوں گے۔ ]

(۶) | ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور آدم کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا کہ یہ جنت تمہارا مسکن ہے یہاں سے جو چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ پو، البتہ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ پھلنا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی اور نہ اس کی ضرورت ہی تھی۔ اس حکم سے مقصود صرف آدم و حوا کی آزمائش تھی کہ وہ کہاں تک اللہ کا یہ حکم بجالاتے ہیں اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا کیا یہ اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ ]

(۷) [ شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے: ان دو آیات میں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریق کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طریق کار کا آغاز شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور وسوسہ سے مراد ہر وہ خیال ہے جس پر عمل کرنا کسی امر الہی کی نافرمانی پر منتج ہوتا ہو یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہوتا ہے جیسا کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں۔۔۔ ]

--- یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے (بخاری: کتاب بدء الخلق: باب صفة ابلیس و جنودہ) شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے بلکہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت موجودہ حالت سے بدرجہا بہتر ہو سکتی ہے اور فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں خاصی ترقی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا آدمؑ و حوا کو بھی اس نے ایسے سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح یا فرشتے بن جاؤ گے تو پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ابلیس یا اس کے چیلے چائے سبز باغ ہی نہیں دکھاتے بلکہ طرح طرح کے دلائل اس کے دل میں ڈال کر اسے یہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ فی الواقع اس کے لیے بہتری اور اس کی خیر خواہی کی راہ ہے، اس میں اس کا اپنا کچھ مفاد نہیں اور اس یقین دہانی کے لیے اگر اسے قسمیں بھی کھانا پڑیں تو کھائے جاتا ہے۔

شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بندے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیاء کا جذبہ رکھ دیا ہے اس جذبہ کو کمزور تر بنا دے۔ ابلیس اور اس کے چیلوں چائنوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ لاکھڑا کریں اور اختلاط مرد و زن کی ساری راہیں کھول نہ دیں۔ عورت کے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کو ان لوگوں نے عورت کے لیے قید خانے کا نام دے رکھا ہے اور پردے کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں اور یہ سب کچھ شیطان کی سکھائی ہوئی چالیں ہیں۔ اور یہ خیال کہ شیطان نے پہلے حوا کو گمراہ کیا اور پھر حوا کے کہنے پر سیدنا آدمؑ نے بھی اس درخت کا پھل کھالیا، غالباً اسرائیلیات سے لیا گیا ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے و وعید کیے اور دونوں اس کے حکم میں آگئے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے سیدنا آدمؑ و حوا کو منع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے شیطان کے دام میں پھنس گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدتوں گزر چکی تھیں کہ آدم و حوا دونوں عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہ آیا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا۔ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہے:

﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ ”پھر آدمؑ اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ پایا۔“ [

نائل<sup>(۸)</sup> کر ہی لیا پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر<sup>(۹)</sup> چپکانے لگے،

(۸) یعنی یہ نہیں ہوا کہ ادھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور سبز باغ دکھائے تو فوراً آدم و حوا اس درخت کا پھل کھانے کو تیار ہو گئے بلکہ وہ مدتوں ان باتوں کی یقین دہانی کرتا رہا تا آنکہ وہ انہیں اس نافرمانی پر اکسانے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔

(۹) **ایسا اور مقامات ستر کو ڈھانپنا انسانی فطرت میں داخل ہے**

اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اور اپنے مقامات ستر کو ڈھانپ کر رکھنا عورت اور مرد دونوں کی فطرت کے اندر داخل ہے پھل کھانے کی وجہ سے جب سیدنا آدم و حوا کا جنتی لباس چھن گیا تو سب سے پہلے فکر جو انہیں دامن گیر ہوئی وہ یہ تھی کہ اپنے مقامات ستر کو چھپائیں اور فوری طور پر کچھ نہ ملا تو جنت کے درختوں کے پتوں ہی سے ایک دوسرے پر یا اپنے بدن پر چھپا کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا دیا۔ اس آیت سے ان ”محققین“ کے بیان کی تردید ہو جاتی ہے جو انسانی تہذیب و تمدن کی داستان لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان ابتداءً ننگا رہا کرتا تھا اور مدتوں بعد اس نے لباس تیار کیا اور بدن ڈھانپنا سیکھا اور یہ وہی تحقیق ہے جو انسان کو حیوان ہی کی ترقی یافتہ شکل قرار دیتے ہیں اور چونکہ حیوان اپنے مقامات ستر نہیں ڈھانپتے۔ اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان بھی ابتداءً ایسا ہی تھا۔ قرآن اس سب باتوں کی پر زور تردید کرتا ہے، وہ انسان کو ایک مستقل اور الگ مخلوق کی حیثیت دیتا ہے جو آدم سے شروع ہوئی اور آدم کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اسے سنوارا اور بہت اچھی شکل و صورت بنائی پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک کر اسے باقی مخلوق سے افضل و برتر بنا دیا تھا پھر سیدنا آدم کو نبوت عطا فرمائی لہذا وہ خالص موجد تھے جبکہ ہمارے ان ”محققین“ کا انسان ابتداءً مظاہر پرست تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان تحقیق کا سارا انحصار ظن و تخمین پر ہے۔ جب کہ وحی الہی ہمیں حقیقی علم عطا کرتی ہے۔

(۱۰) **ابلیس و آدم کے خصائل کا فرق:** ان آیات سے شیطان اور آدم کی سرشت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے جو یہ ہے کہ:

(۱) ابلیس نے اللہ کی نافرمانی عدا کی جبکہ آدم سے بھول کر ہوئی (۲) ابلیس سے باز پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا اور آدم سے ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ (۳) ابلیس نے اپنی نافرمانی کا الزام اللہ کے ذمے لگا دیا جبکہ آدم نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ قصور ہمارا ہی تھا۔ (۴) ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے ملعون اور راندہ ہوا قرار دیا گیا اور آدم اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے مقرب بارگاہ الہی بن گئے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔

اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ: ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟“ وہ دونوں کہنے لگے: ”ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف (۱۰) نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم سب (یہاں سے) نکل جاؤ۔ تم ایک (۱۱) دوسرے کے دشمن

(۱۱) [ابلیس و آدم کی ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ: ابلیس آدم کا اس لیے دشمن بن گیا کہ اس کی آزمائش کا، جس میں وہ سخت ناکام رہا سبب، آدم بنے تھے اور آدم اس لیے ابلیس کے دشمن بنے کہ اس نے مکرو فریب سے سبز باغ دکھا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر آدم کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا چنانچہ ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں لاسایا گیا کیونکہ جنت ایسی محاذ آرائی کی جگہ نہیں ہے، ایسی محاذ آرائی کے لیے زمین ہی موزوں تھی، مناسب یہی تھا کہ حق و باطل کے سب معرکے زمین ہی پر واقع ہوں، اس طرح اللہ کی وہ مشیت خود بخود پوری ہوگئی جس کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہی یہی تھی کہ آدم وحوا اور ان کی اولاد زمین میں آباد ہو اور شیطان ان کا دشمن بن کر آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہے اور ان کے درمیان محاذ آرائی کا عمل جاری رہے اور اس طرح دنیا کو بنی آدم کے لیے دارالاستحسان بنایا جائے تو پھر آخر اس قصہ آدم و ابلیس میں ابلیس کا یا آدم کا قصور ہی کیا تھا، ہونا تو وہی تھا جو اللہ کی مشیت میں تھا۔ پھر آدم و ابلیس اللہ کی نافرمانی کے مورد الزام کیوں ٹھہرائے گئے؟ (اس کا جواب درج ذیل ہے)

**اللہ کی مشیت اور تقدیر کا مسئلہ:** اس طرح کے سوالات قرآن کریم میں اور بھی متعدد مقامات پر پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اسی سورۃ میں ایک مقام پر فرمایا کہ: ”ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔“ (۷: ۱۷۹) یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس میں جنوں اور انسانوں کا کیا قصور؟ اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی یہ مضمون بکثرت وارد ہے مثلاً جب شکم مادر میں روح پھونکی جاتی ہے تو ساتھ ہی فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی۔ اور ایسے مقامات کتاب و سنت میں بے شمار ہیں جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو قدرت کے ہاتھ میں محض کھلونے ہیں مشیت تو اللہ کی پوری ہوئی ہے پھر ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کے نتیجے کے متعلق پیشگی علم ہونا یا اس کا علم غیب کسی انسان کو اس بات پر مجبور یا اس کا پابند نہیں بناتا کہ وہ وہی کچھ کرے جو اللہ کے علم یا اس کی مشیت۔۔۔

--- یا تقدیر میں لکھا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادہ و اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم یہاں ایک مثال سے سمجھائیں گے:

ایک بادشاہ اپنی مہمات میں اکثر درباری نجومی سے مشورہ لیا کرتا تھا نجومی اسے سیاروں کی چال کے زائچے تیار کر کے امور غیب سے مطلع کر دیتا۔ نجومی کی یہ خبریں کبھی درست ثابت ہوتیں اور کبھی کوئی خبر غلط بھی ثابت ہو جاتی۔ ایک دفعہ بادشاہ اس نجومی سے خفا ہو گیا اور وہ اس نجومی کو کسی بہانے مزادینے کے متعلق سوچنے لگا۔ اسے ایک دم ایک خیال آیا اور اس نے ایک ایسا کرہ بنانے کا حکم دیا جس کے چاروں طرف دروازے ہوں جب ایسا کرہ تیار ہو گیا تو اس نے نجومی کو بلا کر کہا: میں اس کرے میں داخل ہونے والا ہوں، تم حساب لگا کر بتاؤ کہ میں اس کرے کے کون سی سمت والے دروازے سے باہر نکلوں گا۔ نجومی کو بھی بادشاہ کی خفگی کا علم تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ سوال دراصل زندگی اور موت کا سوال ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سوال کا جواب تو میں تمہیں دے ہی دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب لکھ کر آپ کے کسی معتمد علیہ وزیر کے پاس سر بمہر کر کے امانت رکھ دیتا ہوں۔ آپ یہ جواب اس وقت دیکھیں جب آپ کرہ سے باہر نکل آئیں۔ بادشاہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ نجومی نے سوال کا جواب لکھ کر سر بمہر کر کے وزیر کے حوالے کر دیا تو بادشاہ نے اپنے معمار کو بلا کر کہا کہ میں اس کرہ میں داخل ہوتا ہوں۔ اس کے چاروں دروازے مقفل کر دینا اور مجھے چھت پھاڑ کر اور سیرمی لگا کر اوپر سے نکال لانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ باہر آ کر بادشاہ نے نجومی کا جواب طلب کیا جو سب کے سامنے پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا کہ بادشاہ کسی بھی دروازے سے نہیں بلکہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر دم بخود رہ گیا اور نجومی اس کے عتاب سے بچ گیا۔

اب دیکھئے کہ نجومی کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر نے بادشاہ کو ہرگز اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے بلکہ وہ اس کام میں مکمل طور پر آزاد اور با اختیار تھا بالکل یہی صورت ان مسائل کی ہے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے انسان جو کچھ کرتا ہے مکمل طور پر اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے اسی بنا پر اسے جزا و سزا ملے گی۔ رہی پیشگی لکھنے یا مشیت یا تقدیر کی بات تو یہ چیز اسے مجبور سمجھنے پر دلیل نہیں بن سکتی بلکہ یہ بات تو اللہ کے علم و وسعت کی دلیل ہے۔ [

ہو اب تمہارے لئے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک کے لیے سامان زیست ہے، نیز فرمایا: تم اسی (زمین) میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے (۱۲) اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔“



(۱۲) [شیطان سیرت اور حق پرست انسانوں کا تقابل: یعنی اس زمین پر ابلیس کی اولاد میں اور آدم کی اولاد میں یہ محاذ آرائی قیامت تک جاری رہے گی جب کہ پہلی بار صور پھونکا جائے گا۔ اس محاذ آرائی یا حق و باطل کے معرکے میں شیطان کے پیروکاروں کی بالکل وہی صفات ہوں گی جن کی ابلیس نے نمائندگی کی تھی یعنی وہ حق سے انحراف کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تنبیہ ہونے پر اپنے گناہوں کے اعتراف کی بجائے مزید سرکشی اختیار کریں گے، پھر خود ہی سرکشی نہ کریں گے بلکہ اوروں کو کمر و فریب اور جھوٹے وعدوں سے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہو تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اب ان کے مقابلہ میں حق پرستوں کے اوصاف بھی وہی ہوں گے جن کی نمائندگی سیدنا آدم نے کی۔ یعنی اصل کے لحاظ سے وہ اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، اگر غلطیاں ان سے ہوں گی تو کسی شیطانی انجینئر کی بنا پر نادانستہ ہوں گی، انہیں اپنی غلطی کا جلد ہی احساس ہو جائے گا تو وہ اس غلطی کو اپنا ہی قصور تسلیم کریں گے اور اللہ کے حضور توبہ کریں گے۔“ (تیسیر القرآن: از مفسر قرآن، مولانا عبدالرحمن

کیلانی<sup>7</sup> ج ۱۲ ص ۳۴ تا ۴۰)

## حضرت آدم و حوا کے بارے میں ایک غلط فہمی

حضرت آدم و حوا کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ان کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا، وہ یا تو ناقص الخلق ہوتا یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ چنانچہ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اگر تم آئندہ پیدا ہونے والے بچے کا نام عبدالمارث رکھو گے تو وہ صحیح سالم اور زندہ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام تھا اس لیے عبدالمارث (شیطان کا بندہ) نام رکھنے میں شرک کا ارتکاب تھا جو شیطان آدم و حوا سے کروانا چاہتا تھا چنانچہ انہوں نے مجبوراً اگلے بچے کا یہی نام رکھ دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش فرمائی۔ یہ غلط فہمی بعض ضعیف روایات اور قرآن مجید کی درج ذیل آیات کی بنا پر پیدا ہوئی:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوُا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُنكَرَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَيُّشْرِكُونَ ۝ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝﴾

”وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان (یعنی آدم) سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ: اگر اللہ ہمیں اچھا بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً اس کے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب تندرست (بچہ) دے دیا تو وہ اس بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے جبکہ اللہ بلند تر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جن کا (کسی چیز کو) پیدا کرنا تو دور کنار، وہ تو خود بھی پیدا کئے جاتے ہیں۔“ (الاعراف، ۱۸۹، ۱۹۱)

ان آیات کا مفہوم مدعا کیا ہے؟ اور مذکورہ بالا غلط فہمی سے متعلقہ روایات کی حقیقت

کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آئندہ سطور میں دو معاصر مفکرین کی تفاسیر سے متعلقہ اقتباس درج کر رہے ہیں۔

### سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

مولانا مودودیؒ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتداءً وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں۔ پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں۔ عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیعت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب المخلقت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بہر انگڑا لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی و ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح سالم بچہ پیدا کرے گا۔ لیکن پھر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید برآتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکرے کے لیے نذریں اور نیازیں کسی دیوی، کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے، مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبدالرسول، عبدالعزیز، اور عبدالشمس وغیرہ۔

اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچادی۔ چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے جس سے مراد حضرت آدمؑ ہیں اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو



اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم و حوا ہی ہوں گے۔ اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک پورا قصہ تصنیف کر دیا گیا کہ حضرت حوا کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے تھے آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبدالمارث (بندہ شیطان) رکھ دیں۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی ﷺ تک بھی پہنچادی گئی ہے لیکن درحقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوع انسانی کا پہلا جزا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس کا تخلیق میں شریک نہ تھا، اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید و بیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوجھتی ہے۔ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد و عورت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شریک کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی لیکن اب جو شرک ہم تو حید کے مدنیوں میں پار ہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، حمل کے زمانے میں منٹیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نیاز انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں، اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موحد ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی ہے، ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے:

کرے غیر گرت کی پوجا تو کافر ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر  
 بھلے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر  
 مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں  
 نبیؐ کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبیؐ سے بڑھائیں  
 مزاروں پہ جا جا کر نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں  
 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے (۱)

### مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ

مولانا کیلانیؒ مذکورہ آیات کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ  
 ”ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ ”آدم دحوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے وہ مر جاتے  
 تھے کیونکہ وہ کمزور الخلق ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب سیدہ حوا کو حمل ہوا تو آدم دحوا دنوں  
 نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تندرست بچہ پیدا ہوا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اسی  
 دوران شیطان نے حوا کو پٹی پڑھائی کہ اگر وہ اس ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث  
 رکھیں تو ان کا بچہ یقیناً تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا۔ حارث دراصل ابلیس کا نام تھا اور  
 جن دنوں وہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا، اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ حوا نے شیطان سے  
 اس بات کا وعدہ کر لیا اور سیدنا آدم کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔“ اس روایت کو حافظ  
 ابن کثیرؒ نے تین وجہ سے معلول قرار دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا قصہ اسرائیلیات سے  
 ماخوذ ہے نیز قرآن ہی کے الفاظ سے یہ قصہ کئی وجہ سے باطل قرار پاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

- ۱۔ ﴿جعلنا له شرکاء﴾ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک صرف ایک شیطان ہی  
 نہیں بنایا گیا بلکہ یہ شریک ایک جماعت یا کم از کم دو سے زیادہ ہیں۔
- ۲۔ ﴿عمایبشر کون﴾ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے دو (آدم دحوا) نہ  
 تھے بلکہ یہ بھی ایک جماعت ہے۔
- ۳۔ اگر شیطان کو ہی شریک بنایا تھا تو اس کے لیے من آنا چاہیے تھا جو ذوی العقول کے  
 لیے آتا ہے حالانکہ یہاں ﴿مالا یخلق﴾ کے الفاظ ہیں۔

(۱) [”تفہیم القرآن“ (ج: ۲ ص: ۱۰۷ تا ۱۰۸) حاشیہ نمبر (۱۶۶)]

۴۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام سکھلا دیے تھے اگر ابلیس یا شیطان کا کوئی نام 'حارث' بھی ہوتا تو وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسی سے تو براہ راست آپ کی دشمنی ٹھن گئی تھی۔ علاوہ ازیں کسی بھی سند صحیح سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سیدنا آدم کے کسی بیٹے کا نام عبدالحارث بھی تھا۔

اس آیت کے مخاطب دراصل مشرکین مکہ ہیں۔ ابتداء میں سیدنا آدم و حوا کا ذکر ضرور ہے مگر بعد میں روئے سخن دور نبوی ﷺ کے مشرکین کی طرف مڑ گیا ہے جن کی عادت تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو اس کی سلامتی اور تندرست و صحیح سالم بچہ پیدا ہونے کے لیے اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے لیکن جب صحیح و سالم بچہ پیدا ہو جاتا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو بھی شکر دے کر حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے اور ان کے نام ایسے ہی رکھ دیتے جن میں شرک پایا جاتا مثلاً عبدالشمس، عبدالعزی، عبدمناف وغیرہ اور نذریں نیازیں بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر چڑھایا کرتے تھے۔ یہ حالت تو دور نبوی ﷺ کے مشرکین کی تھی۔ مگر آج کے مشرکین جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان مشرکوں سے چار ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ یہ اولاد بھی غیروں سے مانگتے ہیں، حمل کے دوران منتیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر جا کر چڑھاتے ہیں اور نام بھی شرکانہ رکھتے ہیں جیسے پیراں دتہ، پیر بخش، وغیرہ۔ پھر بھی یہ موحد کے موحد اور مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں! (۱)

## قصہ ہابیل و قابیل اور شیطان کا کردار

قرآن مجید میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اجمالی طور پر اس طرح بیان ہوا ہے:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ لِأَنَّكَ لَأَنتَكَ أَنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

(۱) [تیسیر القرآن] (ج: ۲، ص: ۱۲۳، ۱۲۴) حاشیہ نمبر (۱۸۹)

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوْءَ ءَ أَخِيهِ قَالَ يُورِثُنِي أُعَجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِثِي سَوْءَ ءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَثَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾ [المائدہ/۳۲]

”نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی دوسرے نے کہا: میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا، پہلے نے جواب دیا: اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لئے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو فقط اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک ’کو ا‘ بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے (کوے کو دیکھ کر) وہ کہنے لگا: افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا۔ اس کے بعد وہ اپنے کئے پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے (تورات میں) لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا اور جس نے کسی کو (قتل ناحق سے) بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی حیات کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں“

مذکورہ واقعہ چونکہ مجمل انداز میں بیان ہوا ہے اس لیے یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے

ہیں مثلاً:

- ۱۔ حضرت آدمؑ کے یہ بیٹے کون تھے؟
- ۲۔ ان کا تنازعہ کس بات پر ہوا تھا؟
- ۳۔ انہوں نے کن چیزوں کی قربانیاں پیش کی تھیں؟
- ۴۔ ایک کو دوسرے کے قتل پر کس نے آمادہ کیا تھا؟
- ۵۔ قابیل نے قتل کیسے کیا اور قتل کرنے کا طریقہ اسے کس نے بتایا تھا؟
- ۶۔ قتل کے بعد لاش چھپانے کے لیے کس نے مدد کی تھی؟

ان تمام سوالات کے جوابات سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کے جواب اگر قرآن و سنت میں نہ ملیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ قرآن میں مذکور اس واقعہ کا مقصود قتل کی مذمت و شنیعت بیان کرنا ہے تاکہ لوگ قتل ناحق سے حد درجہ احتیاط کریں اور وہ مقصود پوری طرح ان آیات سے حاصل ہو رہا ہے۔ باقی رہا ان سوالوں کے جواب کا مسئلہ تو وہ تاریخی نوعیت کی معلومات ہیں۔ اگر حاصل ہو جائیں تو ٹھیک ورنہ ان کے معلوم نہ ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس تمہید کے بعد اب ہم ان سوالوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۱۔ حضرت آدمؑ کے ان دو بیٹوں کا نام کیا تھا؟ قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث میں اس کی صراحت مذکور نہیں تاہم اسرائیلی روایات و آثار کی بنا پر جمہور مفسرین نے ان کے نام ہابیل اور قابیل بیان کیے ہیں۔

۲۔ ہابیل اور قابیل کا باہمی تنازعہ کس بات پر ہوا تھا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید یا صحیح احادیث میں مذکور نہیں تاہم اسرائیلی روایات کی بنا پر جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت دنیا ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت آدمؑ و حوا کی اولاد کا آپس ہی میں نکاح کیا جاتا تھا۔ جس کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدمؑ و حوا کے ملاپ سے ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے چنانچہ ایک حمل کے لڑکے لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی لڑکے سے کر دیا جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب اسی اصول کے مطابق ہابیل کی بہن کا قابیل سے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے

والی بہن کا ہاتیل سے نکاح کیا جانا تھا مگر قاتیل نے اس میں یہ کہتے ہوئے رکاوٹ پیدا کر دی کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑکی ہاتیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے خوبصورت تھی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ خیرات نکالو جس کی خیرات مقبول ہو جائے اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے اللہ کے لئے خیرات نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتیل نے تو اچھی خیرات دی۔ (بعض کے بقول انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے موٹا تازہ جانور پیش کیا) جب کہ دوسری طرف شیطان قاتیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم اللہ کے لیے اپنا مال خیرات کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ قاتیل نے کہا: پھر کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ تم دیکھو جو ردی اور فضول مال ہے، اسے خیرات کر دو۔ چنانچہ قاتیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر ردی مال خیرات کر دیا۔ (بقول بعض قاتیل نے اپنی فصل میں سے ردی سٹ خیرات کیا تھا) کہا جاتا ہے کہ دونوں کی خیرات مکہ مکرمہ (یا کسی جگہ) رکھ دی گئی اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی اور ہاتیل کی خیرات کو جلا گئی مگر قاتیل کی خیرات کو پونہی چھوڑ گئی۔ خیرات کا جلنا اس بات کی نشانی تھی کہ وہ خیرات قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہاتیل کی خیرات قبول ہو گئی مگر اس پر قاتیل آگ بگولہ ہو گیا اور اب اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہاتیل کو قتل کر دے کیونکہ ہاتیل کو قتل کرنے کی ایک وجہ تو طیش و غضب تھی اور دوسری یہ تھی کہ اس طرح جب ہاتیل زندہ ہی نہ رہے گا تو اس لڑکی کو قاتیل اپنے نکاح میں رکھنے کا مجاز بن جائے گا۔

۴۔ ہاتیل کو قتل کرنے کی یہ ترکیب قاتیل کو کس نے سمجھائی تھی؟ اس کے بارے میں قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ ”اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا“۔ البتہ اس کے دل میں یہ برا خیال از خود پیدا ہوا یا شیطان نے پیدا کیا؟ اس کی صراحت قرآن و سنت میں مذکور نہیں۔ تاہم نفس چونکہ اچھے اور برے خیالات کا منبع ہے اور شیطان بھی نفس میں برے خیالات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ خود قاتیل کے دل میں بھی یہ برا خیال پیدا ہوا ہو اور شیطان نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہو۔

۵۔ قاتیل نے اسے قتل کیسے کیا اور قتل کرنے کا طریقہ کس نے اسے بتایا؟ اس کے متعلق بھی قرآن و سنت میں کوئی صراحت نہیں البتہ یہ بات مسلم ہے کہ انسان کو پیدائشی طور پر اچھائی اور برائی القا کی گئی ہے ﴿فَالْهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾ اس لیے ممکن ہے کہ اس کے دل میں خود ہی کوئی طریقہ پیدا ہو گیا ہو۔ البتہ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ اس نے چھری کے ساتھ گردن کاٹی، بعض میں ہے کہ گلاب کا مارا اور بعض میں ہے کہ قاتیل اپنے بھائی کی گردن مروڑ رہا تھا کہ شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے اسے طریقہ قتل سمجھانے کے لیے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر اس زور سے مارا کہ جانور کا سر پکلا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ چنانچہ پھر قاتیل نے بھی اسی طرح اپنے بھائی کو قتل کیا۔ (معاذ اللہ!)

۶۔ لاش چھپانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین میں گڑھا کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپائے۔“

بعض روایات میں ہے کہ جب قاتیل کو یہ مشکل پیش آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے تو اسی اٹا دو کوئے وہاں آئے اور آپس میں لڑنے لگے پھر ایک کوئے نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین میں گڑھا کھود کر اسے وہاں دفن بھی کر دیا۔ اسی کو دیکھ کر قاتیل نے بھی ایسے ہی کیا۔

ہائیل اور قاتیل کے اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اپنا مقصد پورا کروانے کے لیے ہر ترکیب سمجھاتا ہے اور جب اس کی مقصد برآری ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔



## قصہ قوم نوح اور شیطان کا کردار.....!

حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہو گزرے ہیں، آپ نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کا کام کیا مگر چند ایک لوگوں کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہ ہوا بلکہ وہ بد بخت قوم آپ ہی کے درپے آزار ہو گئی، آپ سے استہزاء اور مذاق کرنے لگی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کی صورت میں اپنا عذاب بھیجا اور حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا اور کوئی بشر باقی نہ بچا۔ بلکہ آپ کا بیٹا اور بیوی جو عذاب آنے تک حالت کفر ہی میں رہے وہ بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عذاب ختم ہونے کے بعد حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہی پوری کرہ ارضی پر باقی بچے تھے۔ حضرت نوح کی قوم میں آہستہ آہستہ کفر و شرک شروع ہوا تھا اس کفر و شرک کے آغاز میں شیطان نے بنیادی کردار ادا کیا جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ

”قوم نوح میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر نامی پانچ نیک صالح بزرگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کسی طرح سے ان کی (اگلی نسل یا قوم) کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان پانچوں بزرگوں کے بت بنا کر اپنی مجلسوں (اور اجتماعات وغیرہ) میں رکھو اور ان بتوں کے نام بھی اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا (اور اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے مگر) اس وقت ان بتوں (کو محض بزرگوں کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا ورنہ قوم نوح کے نیک صالح لوگ ان کی عبادت و پرستش نہیں کرتے تھے لیکن جب یہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور لوگوں میں علم بھی نہ رہا) کہ یہ بت تو محض بزرگوں کی یاد کے لیے بنائے گئے تھے) تو پھر ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔“<sup>(۱)</sup>

مولانا محمد داؤد رازاؒ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں کہ

”بت پرستی کی ابتدا جملہ بت پرست اقوام میں اس طرح شروع ہوئی کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے ناموں پر بت بنا لیے۔ پہلے عبادت میں ان کو سامنے رکھنے لگے۔ شیطان

(۱) [بخاری: کتاب التفسیر۔ باب ود و سواع..... (۴۹۲۰)]



نے یہ فریب اس طرح چلایا کہ ان بتوں کے دیکھنے سے بزرگوں کی یاد تازہ رہے گی اور عبادت میں دل لگے گا۔ رفتہ رفتہ وہ بت ہی خود معبود بنا لیے گئے۔ تمام بت پرستوں کا آج تک یہی حال ہے پس دنیا میں بت پرستی یوں شروع ہوئی۔ اس لیے اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بت اور صورت (تصویر) کے بنانے سے منع فرمادیا اور یہ حکم دیا کہ جہاں بت یا صورت دیکھو اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دو کیونکہ یہ چیزیں اخیر میں شرک کا ذریعہ ہو گئیں۔ اسلامی شریعت میں یادگار کے لیے بھی بت بنانا یا صورت کا بنانا درست نہیں اور کوئی کتنے ہی مقدس پیغمبر یا اوتار کی صورت ہو اس کی کوئی عزت یا حرمت نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ صرف ایک صورت ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن نہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے اس اصول مذہبی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلٰی الْاٰمْرِ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدہ ۲۴]

”نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔“ (وحیدی) مگر یہ کس قدر افسوسناک حرکت ہے کہ بعض تعزیہ پرست حضرات تعزیہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی کاغذی صورت بنا کر تعزیہ کے آگے رکھتے اور اس کا پورا ادب بجالاتے ہیں۔ کتنے نام نہاد مسلمانوں نے مزار اولیاء کے فوٹو لے کر ان کو گھروں میں رکھا ہوا ہے اور صبح اور شام ان کو معطر کر کے ان پر پھول چڑھاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جملہ حرکات، بت سازی اور بت پرستی کی شکلیں ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں۔ ورنہ میدان محشر میں سخت ترین رسوائی کے لیے تیار رہیں۔“<sup>(۱)</sup>

قوم نوح کو شیطان نے آہستہ آہستہ اتنا گمراہ کر دیا کہ وہ اپنے ان بتوں کی پوجا ہی اپنا مقصد حیات بنا بیٹھے تھے اور باوجودیکہ حضرت نوحؑ ان کے اس طرز عمل کو خدا کی نافرمانی اور شرک قرار دیتے تھے مگر وہ اتنے متعصب ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتے: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْدَرُنَّ الْهَيْكُمُ وَلَا تَنْدَرُنَّ وَاذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

”انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ وہ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑنا۔“ [النوح ۲۳]

(۱) | صحیح بخاری: ترجمہ و تشریح از داؤد راز (ج: ۶، ص: ۴۶۲) طبع مکتبہ قلوبیہ لاہور |

ساڑھے نو سو سال کی شبانہ روز دعوت و تبلیغ کے بعد اس سرکشی کو دیکھتے ہوئے حضرت نوحؑ نے آخر کار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور لن کی ہلاکت کے لیے یہ بدعا کی:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [النوح ۲۶، ۲۷]

”اور حضرت نوحؑ نے کہا: اے میرے رب! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندوں کو (بھی) گمراہ کریں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔“

آپ کی بدعا قبول ہوئی اور آسمان وزمین میں ہر طرف سے پانی کا سیلاب آ گیا جس میں اہل ایمان، جو ایک کشتی میں سوار تھے، کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿مِمَّا خَطَبْتِهِمْ أُرْفِقُوا فَاذْخُلُوا نَارًا فَلَمَّ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾

”یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب (پانی کے عذاب میں) ڈبو دیئے گئے اور جہنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار (بھی) انہوں نے نہ پایا۔“ [النوح ۲۵]

یعنی جن بتوں کے نام نذر و نیاز اور چڑھاوے دیتے، جن کے لیے رکوع و سجود اور پرستش کرتے اور جنہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے وہ ’بیچ تن پاک‘ ان کے کسی کام نہ آسکے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں بھی ان پر برس کر رہا۔ اللہم قنا عذابک (امین) لیکن جہالت کی انتہا ہے کہ یہی بت بعد میں بھی ڈھونڈھ کر یا پھر سے تیار کر کے لوگوں نے پوجنے شروع کر دیے حتیٰ کہ کسی طرح سے یہی بت عرب میں پہنچ گئے اور اہل عرب نے بھی قوم نوحؑ کی طرح ان کی پرستش شروع کر دی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ

”جو بت حضرت نوحؑ کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں بھی پوجے جانے لگے۔ ’وڈودمۃ الجندل‘ (نامی علاقے) میں بنو کلب (قبیلے) کا بت تھا۔ ’سواع‘ بنو ہذیل (قبیلے) کا۔ ’یعوث‘ بنی مراد کا اور بنی مراد کی شاخ بنی غطف کا بھی یہی بت تھا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے (علاقوں) کے پاس رہتے تھے۔ ’یعوق‘ بنی ہمدان کا بت تھا۔ ’نسر‘ حمیر کا بت تھا جو ذوالکلاع کی آل میں سے تھے۔“ (۱)

(۱) [بخاری: کتاب التفسیر۔ ایضاً]

## باب ششم (۶)

## شیطان اور مسلمان!.....!

حضرت عیاض بن حمار الجاشمیؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)

((وانی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتہم الشیاطین فاجتالہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا))  
 ”بے شک میں نے اپنے بندوں کو شرک سے پاک (اور دین فطرت پر) پیدا کیا ہے پھر ان کے پاس شیطان آئے جنہوں نے انہیں ان کے دین سے برگشتہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ شیطانوں نے ان کے لیے حرام کر دیں اور شیطانوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ میرے ساتھ شرک کریں، جب کہ اس شرک کے حق میں، میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔“

شیطان کا مقصد ہر انسان کو اسی طرح اللہ کا نافرمان بنانا ہے جس طرح وہ خود ہے۔ اور پھر اپنے ساتھ ہی اسے آخرت کے روز جہنم میں لے جانا ہے۔ جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے ایک تو وہ جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جلد یا بدیر جہنم سے بلا خزانکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اور دوسرے وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دائمی طور پر جہنم میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کفر و شرک کے مرتکب ہوئے اور اسی حالت میں پھر فوت ہو گئے۔ اس حقیقت کو شیطان بھی جانتا ہے چنانچہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان سے کفر و شرک کروایا جائے تاکہ وہ دائمی جہنم کا مستحق ٹھہرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی وہ براہ راست کفر و شرک سے آغاز کرتا ہے اور کبھی دیگر گناہوں کا ارتکاب کرواتے کرواتے بلا خزانکال کو کفر و شرک تک لے جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کون کون سے ذرائع اور راستے اختیار کرتا ہے، کس پالیسی پر

عمل کرتا ہے، اپنے لشکروں کو کیا کیا کڑ سکھاتا ہے، اپنی پچھلی ساری زندگی کے تجربات سے کیسے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟..... یہ ساری تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان دشمنی میں شیطان کا بنیادی مقصد اس سے کفر و شرک کروا کر دائمی جہنمی بنانا ہے اور اس کے علاوہ جو گناہ، معصیت، بغاوت اور خدا کی نافرمانی کا کام ہو سکتا ہے، انسانوں سے اس کا عملی اظہار کروانا ہے۔ غیر مسلم (یہودی، عیسائی، ہندو، دہریے وغیرہ) تو پہلے ہی اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے راستوں پر چل رہے ہیں اس لیے شیطان کے مکروہ عزائم کا رخ بالعموم ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے جو مسلمان ہیں۔

یہ تو تھا انسان دشمنی میں شیطان کا بنیادی مقصد اور اصل مشن۔ اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم سے بچنے اور شیطان کے داؤد فریب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے پاس بنیادی تدبیر کیا ہے؟

### آسمانی ہدایت کی پیروی

شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدمؑ وحواء سے جب غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تو شیطان لعین اور جہنم سے بچنے کے لیے ان سے فرمایا:

﴿فَإِذَا بَدَأْتُمْ كُنُوزَ مَنِيَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

”جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو (اس کی پیروی کرنا کیونکہ) جو اس کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔“ [البقرہ ۳۸]

گویا شیطان اور جہنم سے بچنے کے لیے اصولی تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ بتادی ہے کہ اس کی طرف سے جو ہدایت (حکم و پیغام) آئے صرف اسی کی پیروی کی جائے۔ یہ ہدایت انبیاء و رسل کے پاس وحی اور صحائف کی شکل میں آتی رہی۔ پھر سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ ﷺ پر اسلام (قرآن و حدیث) کی شکل میں اس وحی کو مکمل کر دیا گیا اور اسے ہی صراط مستقیم قرار دے دیا گیا۔ اب جو شخص قرآن و حدیث کی صحیح

پیروی کرے گا وہ شیطان اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

”اور بلاشبہ یہی (دین) میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر تم چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ

چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گی۔ [الانعام ۱۵۳]

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں سمجھانے

کے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ ”یہ اللہ کا راستہ ہے۔“ پھر اس خط کے دائیں بائیں

کچھ اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ:

((هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه))

”یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف لوگوں کو

بلاتا ہے (تاکہ انہیں پیچھے لگا کر گمراہ کرے) اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت

(مذکورہ بالا) تلاوت فرمائی۔“ (۱)

گویا اللہ تعالیٰ کے دین کی مکمل پیروی ہی راہ ہدایت ہے اور اس سے گریز کی سب

راہیں شیطانی ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ کا دین اب اسلام

(قرآن و حدیث) کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے لہذا اس کو دل سے سچا اور

منزل من اللہ سمجھتے ہوئے حتی المقدور اس پر عمل کرنا اور اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع

بنادینا ہی ہمیں شیطان کے عزائم اور جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو

قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خُلُوتُمْ فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی

پیروی نہ کرو۔“ [البقرة ۲۰۸]



(۱) [مسند احمد (۴/۶۵۱، ۴۳۵) مسند دارمی (۲۰۲) السنن الكبرى للبيهقي

(۳۴۳/۶) بحوالہ مشکوٰۃ (۱/۶۶)]

## باب ہفتم (۷)

## شیطان کے اغراض و مقاصد

بنیادی مقصد: شیطان کا ایک ہی آخری مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ یہ کہ انسان کو جہنم میں دھکیل دے اور جنت سے محروم کر دے:

﴿إِنَّمَا يَذْعُوَ جِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ۶]

”وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لئے بلا رہا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں“

ذیلی مقاصد: یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے اس کے ذیلی مقاصد یہ ہیں:

۱۔ بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا:

یعنی بندوں کو غیر اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کی شریعت سے انکار کی دعوت دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَمْ مَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾

”ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔“ [الحشر: ۱۶]

صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا، آپ نے خطبہ میں فرمایا: لوگو! مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم نا آشنا ہو اور وہ بات اللہ نے مجھے آج ہی بتائی کہ میں نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا کیا وہ اس کے لئے حلال ہے اور میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا لیکن شیطان نے آ کر انہیں اپنے دین سے پھیر دیا اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جن کے لئے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔

❁ [یہ باب شیخ عمر لیمان الاشرقی کتاب ”عالم الجن والشیاطین“ سے ماخوذ ہے۔ (دیکھیے: ص

۷۸ تا ۶۷) ترجمہ از عبد السلام سلفی (ص ۸۷ تا ۹۹)

۲۔ کافر نہ بنا سکے تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے:

اگر وہ لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا نہ کر سکے تو ناامید نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے چھوٹا حربہ استعمال کرتا ہے یعنی ان سے چھوٹے موٹے گناہ کرواتا اور ان کے دلوں میں عداوت و دشمنی کی کاشت کرتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”لوگو سنو! شیطان اس بات سے قطعی ناامید ہے کہ اس کی اس شہر میں عبادت ہوگی مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔“

صحیح بخاری میں ہے کہ

”شیطان اس بات سے ناامید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف برا بیخیز کرنے کے سلسلے میں وہ ناامید نہیں۔“ یعنی وہ لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی کی آگ روشن کرے گا اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ۹۱]

”شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟“

وہ ہر بڑے کام کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنَّمَا يُأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

”وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ (وہ اللہ نے فرمائی ہیں)۔“ [البقرة: ۱۶۹]

مختصر یہ کہ ایسی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ شیطان کو ناپسند ہے اور ہر ایسی معصیت جو رحمان کو ناپسند ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔

### ۳۔ شیطان کا بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا:

شیطان لوگوں کو صرف کفر و معاصی کی دعوت دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ انہیں اچھے کام کرنے سے بھی روکتا ہے۔ بھلائی کے جس راستے پر بھی اللہ کا کوئی بندہ چلنا چاہتا ہے شیطان اس کے راستے میں ٹانگ اڑاتا اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے چنانچہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا ہے۔ اور کہتا ہے: کیا تم اسلام کی خاطر اپنا اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھتا اور کہتا ہے: کیا تم ہجرت کی خاطر اپنا وطن، اپنا ماحول چھوڑ دو گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر ہجرت کے لئے چل پڑتا ہے۔ (مہاجر کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی میں کھونٹے سے بندھا ہوا ہو۔) پھر وہ اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے: جہاد کرو گے تو اس میں نفس اور مال کی پریشانی تو ہے ہی، اگر لڑائی ہوئی اور تم مار دیئے گئے تو تمہاری بیوی دوسرے سے شادی کر لے گی اور تمہاری دھن دولت بھی ٹھکانے لگ جائے گی؟ بندہ اس کی بات کو ٹھکرا کر جہاد کے لئے نکل جاتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اگر وہ ڈوب جائے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اگر اس کا جانور اس کی گردن توڑ دے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اس کو احمد، نسائی اور ابن حبان نے صحیح سند سے روایت کیا۔“ (صحیح الجامع البصیر لالبانی جلد ۲ صفحہ ۷۷)

اسی جیسی بات قرآن کریم میں اللہ نے شیطان سے نقل کی ہے کہ اس شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا:

﴿قَالَ لِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَفْعُذَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا يَنبَهُمْ مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾  
 ”جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے لہذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان (کو گمراہ کرنے) کے لئے بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے



بائیں سے غرض کہ ہر طرف سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ [الاعراف: ۱۶-۱۷]

بہر حال بھلائی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں شیطان بیٹھ کر لوگوں کو اس سے نہ روکتا ہو۔

### ۴۔ عبادت و اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے:

اگر شیطان لوگوں کو اطاعت و فرمانبرداری سے نہ روک سکے تو وہ عبادت و اطاعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اجر و ثواب سے لوگوں کو محروم کر دے۔

ایک صحابی نبی اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور کہا ”نماز خراب کرنے کے لئے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ شیطان ہے جس کو ”خزب“ کہا جاتا ہے، اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی۔“ (اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے)

جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا ہے اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ گوز کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اذان ہونے پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور پھر دوسوہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سن سکے، اقامت ختم ہونے پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور پھر سے دوسوہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ”جب اقامت ختم ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں چیز یاد کرو۔ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد نہیں تھیں۔ اس میں الجھ کر آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

رحمن کی ہر مخالفت شیطان کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا سِطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ۱۱۷-۱۱۸]

”وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے (وہ اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں) جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔“

جو شخص اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرے گا خواہ وہ لکڑی اور پتھر کے بت ہوں، سورج ہو، چاند ہو، یا کوئی شخصیت یا نظریہ ہو، وہ ماتے یا نہ مانے بہر حال وہ شیطان کی پرستش کرنے والا ہوگا کیونکہ شیطان ہی کے حکم اور پسند سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَلُوا لَاءِ أَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَٰ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾

”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔“ [سہاء: ۴۰-۴۱]

یعنی فرشتوں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جنوں نے اس کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی عبادت حقیقت میں شیاطین کے لئے ہو جائے جیسا کہ بتوں کی عبادت حقیقت میں شیاطین کی عبادت ہوتی ہے۔

خلاصہ: اب تک کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ شیطان ہی ہر برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے اور ہر کار خیر سے روکتا اور اس سے ڈراتا ہے تاکہ لوگ پہلی چیز کا ارتکاب کریں اور دوسری چیز چھوڑ دیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

﴿الشَّيْطٰنُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾

”شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔“ [البقرہ: ۲۷۸]

شیطان ہمیں مفلسی سے یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے وہ جن بخش کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس سے ہر خبیث اور گندہ کام مراد ہے خواہ وہ بخل ہو یا زنا کاری یا کوئی دوسرا فعل۔

## ۵۔ جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی:

جس طرح شیطان پہ چاہتا ہے کہ انسان کو کفر و گناہ میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے! اسی طرح وہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

1۔ نبی ﷺ پر حملہ: آئندہ صفحات میں وہ حدیث آئے گی جس میں نبی ﷺ نے بتایا کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے چہرہ اطہر پر پھینکنے کے لئے آگ کا شعلہ کے کر آیا تھا۔  
2۔ شیطانی خواب: شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو رنجیدہ اور پریشان کرنے کی غرض سے نیند کی حالت میں طرح طرح کے پریشان کن خواب دکھاتا ہے۔

نبی ﷺ نے بتایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے۔ دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لئے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا انسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ (صحیح الجامع ۱۸۴۳-۱۸۵)

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے چاہئے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کرے اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اسے چاہئے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔“

3۔ گھروں میں آتش زدگی: شیطان گھروں میں آگ لگانے کا کام بعض حیوانات کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ سنن ابوداؤد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں (چوہوں) کو ایسی چیزوں (چراغ) کی طرف لاتا ہے اور تمہارے مکانوں میں آگ لگا دیتا ہے۔“

4۔ موت کے وقت شیطان کا انسان کو جھنجھوڑنا: نبی ﷺ موت کے وقت شیطان کے دوسرے پناہ مانگتے اور کہتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيِّ وَالْهَلْمِ، وَالْفَرَقِ، وَالْحَرْقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ

يَتَخَطَّبُنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ  
مُذْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَوْتِ لِدِينَا)) (صحیح الجامع ۱/۳۰۵)

”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے، عمارت میں دبنے، ڈوبنے اور  
جلنے سے اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے چھبھونے سے، اور اس بات سے  
کہ میں تیری راہ میں پشت دکھا کر مردوں اور پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جانور کے ڈسنے سے  
میری موت ہو۔“ (اس کونسانی اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا)

5۔ پیدائش کے وقت شیطان کا بچے کو تکلیف دینا: نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ  
ہر انسان کو جب اس کی ماں جلتی ہے شیطان تکلیف پہنچاتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے  
محفوظ رہے۔ (صحیح الجامع ۱/۱۷۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ ”جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں  
انگلی چھبھتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم اس سے محفوظ رہے۔“

بخاری ہی میں ہے کہ ”شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس  
سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے۔“

حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مریم کی والدہ نے  
مریم کی پیدائش کے وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ

﴿إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ۳۶]

”میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

چونکہ انہوں نے سچے دل سے دعا مانگی تھی اس لئے اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور  
عیسیٰ کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ حضرت عمار بن یاسر بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں  
اللہ نے محفوظ رکھا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو درداء نے کہا: کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص  
ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہو؟ حضرت مغیرہ نے جواب  
دیا: جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا، وہ عمار ہیں۔

6۔ طاعون (پلیگ) کی بیماری جنوں سے ہوتی ہے: نبی ﷺ نے فرمایا:

”میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نيزوں اور طاعون کی بیماری سے ہوگا جو جنوں کے

کچوکے کا نتیجہ ہے۔ دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی۔“ (صحیح الجامع ۹۰/۴)

مستدرک حاکم میں ہے کہ

”طاعون تمہارے دشمن جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے اس میں تمہارے لئے شہادت کا رتبہ ہے۔“

شاید اللہ کے نبی ایوبؑ کو جو بیماری لگی تھی وہ جن کی وجہ سے تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ نَكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ۴۱]

”اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔“

7۔ ایک دوسری بیماری: نبی ﷺ نے استحاضہ (وہ خون جو حیض کی مقررہ مدت کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے جاری رہے) والی عورت سے فرمایا تھا:

”یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔“ (اس کو ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ دیکھئے: صحیح الجامع ۱۹۶/۳)

8۔ انسان کے کھانے، پانی اور گھر میں شیطان کا حصہ: انسان کے لئے شیطان کی لائی ہوئی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے کی اشیا پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں اپنا حصہ لگا لیتا اور اس کے گھر میں شب باشی بھی کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی ہدایات کی مخالفت کرے یا اس کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر کاربند ہو اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان کی کیا مجال کہ ہمارے مال اور گھر میں حصہ دار ہو جائے۔ شیطان ہمارا کھانا اسی وقت حلال سمجھتا ہے، جب کوئی اسے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے۔ لیکن اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ شیطان کے لئے حرام ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

”جب ہم نبی ﷺ کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لئے اپنا دست مبارک نہ بڑھا دیتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ایک کھانے میں شریک ہوئے، تھی ایک لونڈی تیزی سے آئی گویا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی، نبی ﷺ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے

فرمایا: کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے، شیطان کھانا حلال کرنے کے لئے اس لوٹنی کو ساتھ لایا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس دیہاتی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعہ سے حلال کرے۔ میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس شیطان کا ہاتھ لوٹنی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔“

نبی ﷺ نے ہمیں شیطان سے اپنے مال کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر لیا جائے اور برتنوں پر کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، اس سے چیزیں شیطان کی دستبرداری سے محفوظ رہیں گی۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، مکینے کے کام نہ بند کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چراغ بجھا دو۔“ (صحیح مسلم)

شیطان انسان کے ساتھ اس وقت بھی کھاتا اور پیتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے کھائے پئے، اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے وقت بھی شیطان ساتھ پیتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، وہ نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے۔“

مسند احمد میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:

”نبی ﷺ نے ایک آدمی کو کھڑا ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا: تے کرو، اس نے کہا: کیوں؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں پسند ہے کہ بلی تمہارے ساتھ پئے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: بلی سے بدتر چیز شیطان نے تمہارے ساتھ پیا ہے۔“

شیطانوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لئے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا نہ بھولئے۔ نبی ﷺ نے ہمیں اس کی تاکید کی ہے، آپ نے فرمایا:

”جب آدمی اپنے گھر میں آئے اور گھر میں داخل ہوتے وقت نیز کھانا کھاتے وقت خدا کا نام لے لے، تو شیطان (اپنی ذریت سے) کہتا ہے: اس گھر میں تمہارے لئے نہ شب باشی کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان (اپنی ذریت سے) کہتا ہے: اس گھر میں تمہیں شب باشی کی جگہ مل گئی اور

وہ آدمی کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے یہاں تم کو شب باشی کی جگہ مل گئی اور رات کا کھانا بھی۔“

9- آسیب زدگی: علامہ ابن تیمیہ مجموعہ فتاویٰ ج ۲۳ ص ۲۷۶ پر رقمطراز ہیں: انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا بائناق ائمہ اہل سنت والجماعت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

”جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے باؤلا کر دیا ہو۔“ [البقرہ: ۲۷۵]

بخاری میں نبی ﷺ سے مروی ہے: ”شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔“ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے کہا: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ والد نے جواب دیا: بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن نبی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں: احمد بن حنبل نے جو بات کہی ہے وہ مشہور و معروف ہے۔ جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں۔ اس کے باوجود اس شخص کو نہ پٹائی کا احساس ہوتا ہے نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی۔ آسیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو کھینٹتا اور کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو پیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حرکتیں کرتا ہے جو شخص اس کا پچھم خود مشاہدہ کرے گا اسے بدیہی طور پر معلوم ہو جائے کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری صنف کی مخلوق ہے۔

ابن تیمیہ مزید کہتے ہیں: ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ جن آسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پر تہمت لگاتا ہے، شرعی دلائل میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو۔ علامہ نے جلد ۱۹ ص ۱۲ پر لکھا ہے کہ ”جن لوگوں نے آسیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے وہ معتزلہ کا ایک ٹولہ ہے جس میں جبائی اور ابو بکر رازی وغیرہ شامل ہیں۔“

## باب ہشتم (۸)

## انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھکنڈے

شیطان انسان کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ ان اچھے کاموں کو چھوڑ دو اور یہ برے کام کرو تا کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ تم برباد ہو جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرے تو کوئی بھی اس کی بات نہ مانے، اس کے بجائے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے مثلاً:

## ۱۔ باطل کی تزیین:

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اسی ہتھکنڈے کو استعمال کرتا رہا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا، وہ باطل کو حق اور حق کو باطل کی شکل میں پیش کرتا ہے اور انسان کی نگاہ میں باطل کو اتنا حسین اور حق کو اس قدر بد نما دکھاتا ہے کہ وہ منکر کے ارتکاب اور حق سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ ابلیس ملعون نے رب العزت سے کہا تھا:

﴿وَبِمَا آغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ۳۹-۴۰]

” (وہ بولا) میرے رب! جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔“

اس سلسلہ میں علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ: ”شیطان کی ایک فریب کاری یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مکرو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی عقل پر اپنا جادو جگاتا ہے، اس کی جادوگری سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے رکھے۔ انسان

❁ [یہ باب شیخ عمر سلیمان الاشرقی کتاب ”عالم الحن والشیاطین“ سے ماخوذ ہے۔ (دیکھئے: ص

۸۴ تا ۱۰۰) ترجمہ از عبد السلام سلفی]



کے لیے جو چیز مضرت رساں ہو شیطان اسے اتنی ہی خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مفید معلوم ہونے لگتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ نفع بخش ہو اسے اتنی بد نما دکھاتا ہے کہ وہ نقصان دہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اللہ شیطان نے اس فسوس کاری سے کتنے انسانوں کو بہکایا۔ دل و ایمان کے درمیان اس سے کتنی دیواریں کھڑی کیں! باطل کو رنگ و روغن کر کے کتنی حسین شکل میں نمایاں کیا اور حق کو مسخ کر کے اس کی کتنی بھدی صورت دکھائی۔ سکے پر کھنے والوں کی نگاہوں میں کتنے کھوٹے سکے بتائے! اہل بصیرت تک کو کتنے مکر و فریب دیئے! وہی تو ہے جس نے لوگوں کے دل و دماغ پر جادو کر کے انہیں مختلف مذاہب اور بے شمار راہوں پر ڈال دیا، انہیں گمراہی کا ہر راستہ دکھایا تاہی کے ہر کھڑ میں گرایا، بتوں کی پرستش، رشتہ داروں سے ترک تعلق، ماں بہنوں سے شادی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کو اچھا بتایا، کفر و فسق اور عصیان و نافرمانی کے باوجود اس نے لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا اور ان کے لیے تعظیم کی عظیم شکل میں شرک کا چور دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات علو و تکلم کو تنزیہ کا نام دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کے چھوڑنے کو لوگوں کے ساتھ پاری و خوش اخلاقی بتایا اور اللہ کے اس قول ”علیکم انفسکم“ (تم اپنی فکر کرو، مادہ ۱۰۵) پر عمل درآمد اور رسول ﷺ کی سنت سے اعراض کو تقلید کے سانچے میں پیش کیا۔ (اعاشۃ اللہقان ۱۳۰۱)

حضرت آدمؑ کو بہکانے کے لیے ابلیس نے اسی ہتھکنڈے کو استعمال کیا تھا۔ جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا، شیطان نے اس کا پھل کھانے کو اچھا بتایا اور آرام سے باصرار کہنے لگا یہ شجرہ خلد ہے اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے، آدمؑ نے اس کی بات مان لی انجام کار انہیں جنت سے نکلتا پڑا۔ آج شیطان نوازوں کو دیکھئے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس طرح اس ہتھکنڈے کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیمونزم اور سوشلزم کو دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ انہی نظریات کے ذریعہ انسانیت کو حیرانی و پریشانی، تباہی و بھکری سے نجات مل سکتی ہے۔ پھر ان تحریکوں کو دیکھو جو عورت کو آزادی کے نام پر ”خاتون خانہ“ کی بجائے ”شمع“ محفل“ بنانے پر تلی ہوئی ہیں اور آرٹ کے نام پر ان بیہودہ ڈراموں کو اسٹیج کرنے کی

روداد اور علمبردار ہیں جن میں عزت و ناموس کو پیروں تلے روند جاتا اور اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔

ان افکار پر بھی نظر ڈالو جو افزائش اور وافر نفع کے نام پر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے سودی بینکوں میں روپے جمع کروانے کے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ ان نظریات پر بھی غور کرو جن کے یہاں مذہب پر عمل درآمد قدامت پسندی دقیا نویت اور رمانیت ہے اور مبلغین اسلام مشرقی و مغربی ملکوں کے ایجنٹ۔ یہ سب شیطان کے اسی ہتھکنڈے کا تسلسل ہے جس کے ذریعہ اس نے بہت پہلے آدم کو بہکایا تھا یعنی باطل کو دیدہ زیب و دل فریب بنایا اور حق کے چہرے پر کالک لگا کر لوگوں کو اس سے متنفر کر دیا۔

﴿تَاللّٰهِ لَئِذَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَمَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النحل: ۶۳]

”خدا کی قسم! اے نبی! تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں (اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ) شیطان نے ان کے برے کروت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔“

بخدا! یہ بڑا خطرناک حربہ ہے اس لیے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی غلط چیز مزین کر کے پیش کر دی جائے اور وہ اسے صحیح سمجھ بیٹھے تو جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا ہے اس کے حصول کے لیے وہ پوری قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے خواہ اسے اس کی راہ میں اپنی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ۱۰۳، ۱۰۴]

”اے نبی! ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و ناسرمد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جدوجہد راہ راست سے ہٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔“

ایسے لوگ انسانیت کو اللہ کے دین سے روکنے اور اللہ والوں سے جنگ کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حق و ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ۳۷]

”ایسے لوگ راہِ راست سے روکتے ہیں اور نکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہدایت پر ہیں۔“  
یہی وجہ ہے کہ اہل کفر دنیا کو ترجیح دیتے اور آخرت سے تغافل برتتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [حم السجدة: ۲۵]  
”ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے سے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔“

اس آیت میں ”ساتھی“ سے مراد شیاطین ہیں، انہوں نے لوگوں کے آگے یعنی دنیوی زندگی کو اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا کہ وہ اس پر لٹو ہو گئے اور انہیں آخرت کی تکذیب پر آمادہ کیا اور ایسے حسین انداز میں کیا کہ وہ لوگ حساب کتاب، جنت، جہنم ہر چیز کا انکار کر بیٹھے۔

کالے دھندے گورے نام:

شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے اور باطل کو مزین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ ان کا خوبصورت سا نام رکھ دیتا ہے تاکہ انسان مغالطہ میں پڑ جائے اور حقیقت چھپی رہے۔ جیسا کہ اس نے شجرہ ممنوعہ کا نام شجرہ خلد رکھا تھا تاکہ آدمؑ کے لئے اس کو خوشنما بنا کر پیش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طہ: ۱۲۰]  
”شیطان نے کہا ”اے آدم! میں بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟“

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان ہی سے اس کے گروگوں کو یہ ہنر وراثت میں ملا ہے وہ حرام چیزوں کا ایسا نام رکھتے ہیں جس نام کی چیز کو انسان کا دل پسند کرتا ہے جیسے شراب کو ”اصل مزہ“ جوئے کو ”آرام کی روٹی“ سود کو ”لین دین“ اور ظالمانہ ٹیکس کو ”شہی حقوق“ کا نام دے دیا گیا ہے؟ آج سود کو ”انٹرسٹ“ اور قرض و سود، گانوں اور ڈراموں اور تصویروں و مجسموں کو ”آرٹ“ بتایا جا رہا ہے۔

جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں  
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

## ۲۔ افراط و تفریط:

اس سلسلے میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں یا تو اس میں کم و کوتاہی کی جائے یا زیادتی و غلو، اس کی بلا سے بندہ دونوں میں سے کوئی بھی غلطی کرے۔ شیطان انسان کے دل کے پاس آتا اور اسے سوغتھا ہے اگر اس میں پست ہمتی، تن آسانی اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازہ سے انسان پر حملہ کرتا ہے چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کر کے فرائض کی انجام دہی سے روک دیتا ہے۔ اس پر تن آسانی اور آرام طلبی مسلط کر دیتا ہے اور اس کے لئے تاویل و توجیہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب انسان تمام احکام سے کلی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں حقیقت پسندی، احتیاط اور جوش و ولولہ ہو تو شیطان کو اس پر اس دروازہ سے حملہ کرنے کی توقع نہیں رہتی، تو پھر وہ اسے ضرورت سے زیادہ اجتناد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے تمہارے لئے اتنا کافی نہیں تم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہو، وہ افطار کرتے ہیں تو تمہیں افطار نہیں کرنا چاہیے، ان کو سستی لاحق ہوتی ہے تو تمہیں سستی لاحق نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی اپنا ہاتھ اور چہرہ تین تین مرتبہ دھوئے تو تمہیں سات سات مرتبہ دھونا چاہیے۔ وہ نماز کے لئے وضو کرے تو تمہیں غسل کرنا چاہیے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں افراط و تاجاز زیادتی کی ترغیب دیتا ہے، غرضیکہ اسے غلو، انتہا پسندی اور صراط مستقیم کی حدود سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ دونوں جگہ اس کا مقصد انسان کو صراط مستقیم سے دور رکھنا ہے پہلی صورت میں انسان صراط مستقیم تک نہیں پہنچ پاتا اور دوسری صورت میں آگے نکل جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس فتنہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے نجات کی صورت صرف اور صرف گہرے علم، مضبوط ایمان، شیطان کی مخالفت کی طاقت اور اعتدال کی راہ اپنانے میں ہے۔ واللہ المستعان! (الوابل الصیب ص ۱۹)

## ۳۔ آج نہیں تو کل :

شیطان انسان کو کام کرنے سے روکتا اور اسے ست اور آج کا کام کل کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس کے لئے اس کے پاس مختلف طریقے اور حربے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہ لگاتا ہے ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے۔ ”رات لمبی ہے سوتارہ“ اگر آدمی بیدار ہو جاتا اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اس پر خباثت اور سستی طاری رہتی ہے۔“

بخاری اور مسلم میں ہے: ”اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اسے تین مرتبہ پانی سے ناک جھاڑنا چاہئے اس لئے کہ شیطان ناک کے بانسہ پر رات گزارتا ہے۔“ بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرمؐ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر بیدار ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں آپؐ نے فرمایا: ”ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔“

اوپر جو باتیں ذکر کی گئیں وہ شیطان کا انسان کو کسی کام سے روکنے کے لئے ذاتی فعل تھا کبھی وہ وسوسہ پیدا کر کے انسان کو کام سے روکنا چاہتا ہے اس طرح کہ اس کو کابل، ست اور آج کا کام کل پر نالنے کا عادی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں:

”کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان ان کو روکتا اور کہتا رہا: جلدی مت کرو ابھی اور غور و فکر کر لو، اسی طرح نالتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت کفر پر ہوئی۔ اسی طرح شیطان گنہگار کو توبہ سے روکتا ہے اس سے شہوانی اغراض کی تکمیل جلدی سے کرواتا ہے اور یہ امید دلاتا ہے کہ ابھی توبہ کر لیں گے، جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا: لا تمعجل الذنب لعاتشتھی وتامل التوبة من قابل

”اس امید پر جلدی جلدی گناہ نہ کرو کہ توبہ قبول کرنے والے کے دربار میں توبہ کر لی جائے گی۔“

کتنے جدوجہد کا ارادہ رکھنے والے لوگوں کو شیطان نے کل پر ٹالا، کتنے مقام فضیلت پر پہنچنے والوں کی اس نے حوصلہ شکنی کی، کبھی کسی فقیہ نے اپنے درس کا اعادہ کرنا چاہا تو شیطان نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لو، یا کوئی عبادت گزار رات میں نماز کے لئے بیدار ہوا تو اس نے کہا ابھی تو بہت وقت ہے۔ شیطان اسی طرح انسان کو کاہل، ٹال منول کرنے اور امیدوں پر جینے کا عادی بنا دیتا ہے۔ لہذا عقلمند کو چاہئے کہ دورانہدیشی سے کام لے۔ دورانہدیشی یہ ہے کہ وقت پر کام کرے، ٹال منول چھوڑ دے، امیدوں پر جینے سے باز آئے، کیونکہ یہی ہر کوتاہی اور برائی کے رجحان کی جڑ ہے۔ انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ وہ اب برائی چھوڑ دے گا اور اچھائی کی طرف واپس ہو جائے گا لیکن یہ صرف دل کا بہلاوا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس شخص کو یہ امید ہو کہ وہ دن بھر چلتا رہے گا تو وہ سست رفتاری سے چلے گا، اور جس کو یہ امید ہو کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا تو وہ رات میں بہت آہستہ کام کرے گا، لیکن جس شخص کے تصور میں موت سر پر کھڑی ہو وہ بہت سرگرمی اور لگن سے کام کرے گا۔

بعض بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں لفظ ”سوف“ (یعنی پھر کر لوں گا) سے آگاہ کر دیتے ہیں: یہ ابلیس کی سب سے بڑی فوج ہے۔ دورانہدیش اور کاہل دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جماعت سفر میں ہو اور کسی بستی میں قیام کرے اب دورانہدیش گیا اور اس نے اپنے سفر کی تمام ضروریات پوری کر لیں اور روانگی کے لئے تیار ہو کر بیٹھ گیا اور کاہل نے یہ سوچا کہ بعد میں تیار ہو جاؤں گا ممکن ہے یہاں ایک مہینہ تک قیام رہے، اسی وقت روانگی کا بلکل بجا۔ اب کیا تھا، دورانہدیش تو خوش تھا لیکن کاہل حیرت و پریشانی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ دنیا کے اندر بھی لوگوں کی یہی مثال ہے دنیا میں کچھ لوگ چست اور بیدار ہوتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انہیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ کاہل اور ٹال منول کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو موت کے وقت ندامت کے کڑوے گھونٹ پینا پڑتے ہیں۔ (تلبیس ابلیس / ص ۴۵۸)

## ۴۔ جھوٹا وعدہ اور جھوٹی امید:

شیطان لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے تاکہ ان کو گمراہی کے عمیق غار میں لے جا کر پھینک دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ۱۲۰]

”وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔“

کافر جب مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں تو شیطان ان سے قوت و مدد اور غلبہ و اقتدار کا وعدہ کرتا ہے پھر ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَ تَ الْفِئْتِنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِبَرَاءٍ مِّنْكُمْ﴾

”ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔“ [الأنفال: ۴۸]

شیطان سرمایہ دار کافروں سے دنیوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دولت و ثروت ملنے کا وعدہ کرتا ہے جس کے غرور میں ایک آدمی کہہ اٹھتا ہے:

﴿وَلَيْتَنِي رُدُّتْ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الکہف: ۳۶]

”اگر (بافتراض محال) مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔“

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے باغ باغیچے اور دھن دولت کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ بتلائے مکر و فریب تھا۔ شیطان انسان کو جھوٹی تمناؤں میں الجھا کر، جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھوس اور نتیجہ خیز کوششوں سے روک دیتا اور اسے خوابوں کی دنیا میں جینے کا خوگر بنا دیتا ہے۔ انجام کار وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔

## ۵۔ انسان سے اظہار ہمدردی:

شیطان انسان کو یہ کہہ کر معصیت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اس نے بابا آدم سے بھی قسم کھا کر یہی کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [الاعراف: ۲۱]

”اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔“

وہب بن منبہ نے اہل کتاب سے ایک دلچسپ واقعہ روایت کیا ہے جسے یہاں نقل کیا جاتا ہے تاکہ ہم شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے ایک اور طریقے سے واقف ہو جائیں پھر آئندہ اس کی اس ہمدردی سے احتیاط کی جائے اور اس کی ہر دعوت کی سختی سے مخالفت کی جائے۔

وہب کہتے ہیں کہ: ”بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا وہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی۔ تینوں کو ایک جنگ میں جانے کی نوبت آگئی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں اور کون اس کے حق میں قابل اطمینان ہوگا۔ وہب کہتے ہیں: چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس چھوڑ کر جائیں وہ ان کی نظر میں قابل اعتماد شخص تھا۔ چنانچہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جب تک وہ جنگ سے نہیں لوٹیں گے وہ اسی کی حفاظت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کر دیا اور ان سے اور ان کی بہن سے اللہ کی پناہ مانگی۔ وہ لوگ اصرار کرتے رہے بالآخر وہ مان گیا، اور کہا کہ اس لڑکی کو میرے کلیسا کے سامنے والے مکان میں لا کر چھوڑ دو۔ وہب کہتے ہیں کہ: انہوں نے اپنی بہن کو اس گھر میں لا کر چھوڑ دیا اور چلے گئے ایک زمانہ تک وہ لڑکی اس عابد کے پڑوس میں رہی، عابد کھانا لے کر کلیسا کے نیچے اٹھتا اور کلیسا کے دروازہ پر کھانا رکھ کر اوپر چڑھ جاتا اور کلیسا کا دروازہ بند کر لیتا پھر اس لڑکی کو کھانا لے جانے کے لئے کہتا وہ آتی اور اپنا کھانا اٹھا لیتی۔ وہب کہتے ہیں کہ: شیطان نے اس عابد کے ساتھ فریب شروع کیا۔ چنانچہ اس کو خیر کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ دن کے وقت لڑکی کا



گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ لے اور اس سے محبت کر بیٹھے، اگر تم ہی اس کا کھانا اس کے گھر کے دروازہ تک پہنچا دیا کرو تو بڑے ثواب کی بات ہوگی۔ وہب کہتے ہیں کہ: شیطان نے عابد سے اتنا اصرار کیا کہ وہ مجبور ہو گیا چنانچہ راہب کھانا لے جاتا اور لڑکی کے گھر کے دروازہ کے پاس رکھ کر چلا آتا اور اس سے بات نہ کرتا۔ وہب کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تک ایسا ہی کرتا رہا، پھر اس کے پاس اٹلیس آیا اور اس کو خیر اور ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم کھانا لے جا کر اس کے گھر کے اندر رکھ دو تو اور ثواب ملے گا، چنانچہ عابد جاتا اور کھانا اس کے گھر کے اندر رکھ دیتا، ایک زمانہ تک ایسا ہی کرتا رہا۔ پھر اٹلیس آیا اور اس کو خیر و ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم لڑکی سے کچھ بات چیت کر کے اس کا دل بہلا دیا کرو تو کتنی اچھی بات ہوگی، بیچاری بری طرح وحشت محسوس کرتی ہے۔ اٹلیس نے اس سے اتنا اصرار کیا کہ عابد مجبور ہو گیا چنانچہ وہ ایک زمانہ تک اپنے کلیسا کے اوپر سے جھانکتا اور لڑکی سے کچھ بات کر لیتا۔

پھر اٹلیس آیا اور کہا کہ اگر تم اتر کر اپنے کلیسا کے دروازہ پر بیٹھتے اور اس سے بات چیت کرتے اور وہ بھی اپنے گھر کے دروازہ پر بیٹھتی اور تم سے بات کرتی تو اس سے اس کا دل بہل جاتا۔ شیطان نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ عابد کو اپنے کلیسا سے اتر کر دروازہ پر بیٹھنا پڑا، چنانچہ وہ اپنے دروازہ پر بیٹھتا اور لڑکی اپنے دروازے پر۔ دونوں بات چیت کرتے، ایک زمانہ تک دونوں اسی طرح بات چیت کرتے رہے۔ پھر اٹلیس آیا اور اس کو اجر و ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم اپنے کلیسا کے دروازے سے نکل کر اس لڑکی کے گھر کے قریب بیٹھتے اور اس سے بات کرتے تو اس کا دل اور بہل جاتا۔ شیطان نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ وہ ایسا ہی کرنے لگا، ایک زمانہ تک دونوں ایسا ہی کرتے رہے پھر اٹلیس آیا اور عابد اس کے گھر میں جا کر دن بھر اس کے ساتھ بات کرنے لگا جب دن ختم ہو جاتا تو اپنے کلیسا میں آ جاتا۔

پھر اٹلیس آیا اور عابد کی نظر میں اس لڑکی کو اتنی حسین شکل میں پیش کرنے لگا کہ وہ بہک گیا چنانچہ اس نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور اس کا بوسہ لے لیا، اٹلیس عابد کی نگاہوں میں لڑکی کو حسین سے حسین تر بنا کر پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ عابد نے اس کے

ساتھ ہمبستری کر لی چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ کو جنم دیا، پھر اہلیس آیا اور کہنے لگا: بتاؤ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے اگر اس کے بھائی آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس لئے جاؤ اور اس کے لڑکے کو ذبح کر کے دفن کر دو، وہ اس راز کو اس ڈر سے راز ہی رکھے گی کہ کہیں اس کے بھائیوں کو تمہارے ناجائز تعلقات کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ عابد نے ایسا ہی کیا پھر شیطان نے عابد سے کہا: کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے بھائیوں سے تمہارے تعلقات اور اس لڑکے کو قتل کرنے کی بات کو چھپائے گی؟ جاؤ اس کو بھی قتل کر کے لڑکے کے ساتھ دفن کر دو، شیطان اس بات پر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا اور دونوں کے اوپر ایک پتھر کی بڑی سی سل رکھ کر زمین برابر کر دی پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گیا جب تک اللہ کی مشیت تھی وہ عبادت میں مصروف رہا یہاں تک کہ لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس ہوئے۔ وہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا۔ عابد نے کہا کہ وہ مر چکی ہے اور اس پر ترس کھا کر رونے لگا اور کہا کہ وہ بہت اچھی عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔

اس کے بھائی قبر کے پاس آئے اور اس کی موت پر رونے لگے اور اظہار تعزیت کیا، ایک زمانہ تک وہ اس قبر کے پاس مقیم رہے، پھر اپنے اہل و عیال میں واپس ہو گئے۔ جب رات ہوئی اور تینوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے، تو شیطان خواب میں ان کے پاس ایک مسافر کی شکل میں آیا، سب سے پہلے بڑے بھائی کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کے متعلق پوچھا، چنانچہ اس نے اس کو عابد کی بات بتائی کہ وہ مر چکی ہے اور عابد کو بھی اس کا بزار خ ہے اور عابد نے کس طرح قبر کی جگہ بتائی تھی، وہ بھی بیان کر دیا۔ شیطان نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ عابد نے تم سے تمہاری بہن کے بارے میں سچ نہیں کہا۔ اس نے تمہاری بہن کو حاملہ کر دیا تھا اس کو اس سے بچہ ہوا چنانچہ اس نے تمہارے ڈر سے لڑکی اور بچہ دونوں قتل کر کے جس گھر میں وہ رہتی تھی اس کے دروازہ کے پیچھے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ وہ گڑھا گھر میں داخل ہونے والے کے دائیں جانب ہے، جاؤ اور جس گھر میں رہتی تھی اس دروازے کے پیچھے دیکھو جیسا میں نے کہا ویسا ہی

ملے گا۔ پھر شیطان درمیانے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا، پھر سب سے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا، جب تینوں بیدار ہوئے تو ان میں سے ہر ایک اپنے خواب کی وجہ سے حیرت و تعجب میں تھا، تینوں ایک دوسرے کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے رات میں عجیب و غریب چیز دیکھی ہے ہر ایک نے ایک دوسرے کو اپنا خواب بتایا۔ بڑے نے کہا: اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہمیں اپنے کام سے لگنا چاہئے اور اس کو ذہن سے نکال دینا چاہئے۔ چھوٹے نے کہا: بخدا میں جب تک اس جگہ کو جا کر نہ دیکھ لوں یہاں سے نہیں ہٹ سکتا۔

وہب کہتے ہیں: چنانچہ تینوں بھائی نکلے یہاں تک کہ اس گھر میں آئے جہاں ان کی بہن رہتی تھی، دروازہ کھولا اور خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی اس کو کھودا، چنانچہ گڑھے میں اپنی بہن اور اس کے لڑکے کو اسی طرح پایا جس طرح ان سے کہا گیا تھا۔ انہوں نے عابد سے اپنی بہن کے متعلق پوچھا تو اس نے دونوں کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بارے میں ابلیس کے قول کی تصدیق کی۔ چنانچہ انہوں نے عابد کے خلاف بادشاہ کے دربار میں استغاثہ دائر کیا، عابد کو کلیسا سے نیچے لایا گیا اور پھانسی کے لیے پیش کیا گیا، جب اس کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو ابلیس آیا اور کہنے لگا: تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنہ میں مبتلا کیا تھا، تم نے اس عورت کو حاملہ کر کے اس کو اور اس کے لڑکے دونوں کو قتل کر دیا، اگر آج تم میری اطاعت کرو اور اس اللہ کے ساتھ کفر کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، چنانچہ عابد نے ایسا ہی کیا اور کافر ہو گیا، جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان نے اس کو سولی دینے والوں کے سپرد کر دیا، چنانچہ اس کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ (تلبیس ابلیس / ص ۲۹)

اس قصہ کو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں:

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ [الحشر: ۱۶]

”ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔“

## ۶۔ گمراہ کرنے کا تدریجی طریقہ:

مذکورہ بالا واقعہ سے ہمیں شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ معلوم ہوا وہ یہ کہ وہ انسان کو ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تاکہ اسے تھکن اور سستی کا احسان نہ ہو، جب وہ اسے ایک معصیت کے کام پر تیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس پہ سے بڑی معصیت کی طرف لے جاتا ہے پھر اس سے بڑی کی طرف، یہاں تک کہ سب سے بڑی معصیت تک پہنچا کر ہلاکت و تباہی کے منہ پر دھکیل دیتا ہے۔ انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ گمراہ اور کج دل ہوتے ہیں تو ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیئے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [العنق: ۵]

”پھر جب انہوں نے ٹیڑھا اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔“

## ۷۔ نسیان و غفلت:

جس چیز میں انسان کی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے شیطان اس سے انسان کو غافل کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے آدمؑ کے ساتھ کیا کہ ان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا رہا کہ وہ اللہ کے حکم سے غافل ہو گئے اور شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طہ: ۱۱۵]

”ہم نے اس سے پہلے آدمؑ کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔“

نیز حضرت موسیٰؑ کے خادم (یوشع بن نون) نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا:

﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾

”آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر (آپ سے)

کرنا بھول گیا“ [الکہف: ۶۳]

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ آپ یا آپ کا

کوئی ساتھی ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھے جن میں اللہ کی آیتوں پر نکتہ چینی کی جارہی ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ شیطان ان کے ذہن سے اس حکم امتناعی کو بھلا دیتا اور وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاتے۔

﴿وَإِذْ آتَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِنُكَ الشَّيْطَانُ فَلَاتَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

”اور اے نبی! جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس کا احساس ہو جائے، پھر اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔“ [الانعام: ۶۸]

اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی اور وہ رہا ہو کر بادشاہ مصر کی خدمت میں لوٹ کر جائے گا، اس سے یہ درخواست کی تھی کہ جب وہ بادشاہ کے پاس جائے تو اس سے ان کا تذکرہ کرنے مگر شیطان نے اس شخص کے ذہن سے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی بات بھلا دی تھی چنانچہ یوسف علیہ السلام کو کئی برس جیل میں رہنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [یوسف: ۳۲]

”پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ”اپنے بادشاہ (شاہ مصر) سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کو کئی سال قید خانے میں رہنا پڑا۔“ انسان پر پوری طرح حاوی ہو جانے کے بعد شیطان اسے اللہ تعالیٰ سے کلی طور پر غافل کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أَوْ لِنِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلہ: ۱۹]

”شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یادان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو! شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔“ اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان سے منافقین مراد ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے کیونکہ اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ اور انسان اس کے اس وار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَأَذْكُرُ بِكَ إِذْ أَنْسَيْتَ﴾ [الکہف: ۲۴] ”بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔“

## ۸۔ فوج کا خوف:

شیطان کا ایک ہتھکنڈا یہ ہے کہ وہ مومنوں کو اپنی فوج سے خوفزدہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی فوج کے خلاف جہاد نہ کر سکیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مشن سے باز آ جائیں اہل ایمان کے حق میں شیطان کی یہ سب سے بڑی شاطرانہ چال ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی اس چال سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

”اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔“ [آل عمران: ۱۷۵]

اپنے دوستوں سے ڈرانے کا مطلب حضرت قتادہ کے بقول یہ ہے کہ ”وہ تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت بٹھانا چاہتا ہے۔“ اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم مومن ہو تو ان سے نہیں مجھ سے ڈرو، بندہ کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا دل شیطان کے دوستوں کے خوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو وہ ان سے خوفزدہ رہتا ہے۔

## ۹۔ نفس پر قبضہ:

نفس کو جو چیز محبوب ہوتی ہے شیطان اسی دروازے سے نفس پر قبضہ کرتا ہے۔ علامہ ابن قیمؒ اپنی کتاب ”اغاثۃ اللہفان“ جلد ۱ ص ۱۳۲ میں اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ

شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی ملاقات نفس سے ہوتی ہے، شیطان نفس سے معلوم کرتا ہے کہ اسے کون سی چیز محبوب ہے جب اس کو نفس کی کمزوری معلوم ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اس کمزوری سے مدد لیتا ہے اور انسان پر اس دروازہ سے قابض ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنے انسان دوستوں اور ساتھیوں کو بھی یہ سبق سکھا دیتا ہے کہ اگر انہیں اپنے ساتھیوں سے کوئی فاسد مقصد و مفاد حاصل کرنا ہو تو ان پر اسی دروازہ سے قبضہ کیا جائے جو ان کے نزدیک محبوب ہو کیونکہ اس دروازہ سے جانے والا اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتا جو شخص دوسرے دروازے سے جائے گا اس کے لئے وہ دروازہ بند ہو گا وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔“

شیطان اس دروازے سے حضرت آدم اور حوا کے پاس پہنچتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾

”اس نے کہا: تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں بیٹھکی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔“ [الاعراف: ۲۰]

علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ: ”اللہ کے دشمن ابلیس نے آدمؑ و حواؑ کو سونگا اور اسے محسوس ہوا کہ دونوں کو جنت سے انیت ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کی ابدی نعمتوں سے بہرہ ور رہنا چاہتے ہیں۔ شیطان سمجھ گیا کہ آدم اور حوا پر تسلط حاصل کرنے کا یہی ایک دروازہ ہے اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے پھر ان سے کہنے لگا:

﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾

”اس نے کہا: تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں بیٹھکی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔“ [الاعراف: ۲۰]

### ۱۰۔ شکوک و شبہات ڈالنا:

بندوں کو گمراہ کرنے کا ایک شیطانی ہتھکنڈا یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے عقائد کو متزلزل کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے بعض شبہات سے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے۔ مثلاً حدیث میں ہے:

”تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے: فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ فلاں

چیز کس نے پیدا کی؟ اور نبوت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور وہیں رک جانا چاہیے۔“ (بخاری و مسلم)

بعض صحابہ کرامؓ بھی شیطان کی فتنہ سامانی سے نہ بچ سکتے اور انہوں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے شیطانی خیالات کی نبی ﷺ سے شکایت کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ:

”کچھ صحابہ کرامؓ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے عرض کیا: ہمارے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کو زبان پر لانا بھی ہم میں سے کسی کو گوارا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: کیا حقیقت میں تمہارے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں آپؐ نے فرمایا: یہی خالص ایمان ہے۔“

نبی ﷺ کے قول ”یہی خالص ایمان ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسہ کو دفع کرنا اس سے نفرت کرنا اور اس کو برا سمجھنا ہی خالص ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرامؓ شیطانی خیالات کا جس شدت سے شکار تھے اس کو ملاحظہ کیجئے:

”نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: میں اپنے آپ سے ایسی باتیں کرتا ہوں جن کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ جل کر بھس ہو جاؤں! آپؐ نے فرمایا: شکر اس خدا کا جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا۔“

شیطان دلوں میں جو شلوک القا کرتا ہے، اس کی تائید درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے:

﴿هُوَ مَا زَلَّ سُلْطَانًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمَّنِيهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ۵۲-۵۳]

”اور اے نبی! تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ) جب اس نے تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں القا کر دیا، اس



طرح جو کچھ بھی شیطان القا کرتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے (وہ اس لئے ایسا ہونے دیتا ہے) تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا وہ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔“

یہاں تمنا کرنے سے مراد اپنے آپ سے بات کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی ﷺ اپنے آپ سے بات کرتے تو شیطان از روئے فریب آپ کی بات میں القا کر دیتا اور کہتا: آپ کو اللہ سے حصے سے زیادہ مانگنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں فراغت اور خوشحالی عام ہو یا یہ تمنا کرنی چاہئے کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں..... چنانچہ نبی اکرم ﷺ کی تمنا میں شیطان جو وسوسہ ڈالتا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو حق بات سے آگاہ کر کے اپنی مراد و منشا سے آگاہ فرما دیتا..... بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو یہ کہا ہے کہ ”اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قرآن میں ایسی چیزیں شامل کر دیتا ہے جن کا تعلق قرآن سے نہ ہوتا“ تو یہ بات بعید و ناممکن ہے۔ اس کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کو پہنچانے کے معاملے میں نبی اکرم ﷺ ہر خریف سے معصوم و محفوظ ہیں۔

ایک بلند پایہ عالم، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے کچھ شیطانی خیالات و شکوک کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ہرج کو شیطان چار جگہوں پر میری گھات میں بیٹھ جاتا ہے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں۔ آگے سے آکر کہتا ہے: فکر مت کرو اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طہ: ۸۲]

”میں اس شخص کو بخشتا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے اور صالح عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے۔“

اور پیچھے سے آکر اہل و عیال کی بربادی سے ڈراتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں:

﴿وَمَائِنٌ ذَائِبَةٌ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى اللَّهُ رَزَقَهَا﴾ [ہود: ۶]

”زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔“  
 دائیں جانب سے عورتوں کو پیش کرتا ہے تو میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں:  
 ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الاعراف: ۱۲۸] ”آخرت کی کامیابی پر ہمیزگاروں کے لئے ہے“  
 اور بائیں جانب سے نفسانی خواہشات کو پیش کرتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں:  
 ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ۵۳] ”اس وقت (یعنی روز قیامت) جس  
 چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیئے جائیں گے۔“

### (۱۳ تا ۱۱) شراب، جوا، بت پرستی اور فال نکالنا:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدہ: ۹۰-۹۱]  
 ”شراب خوری، اور جوئے بازی اور بت پرستی اور تیر (یعنی تیروں سے قسمت پوری کا فال لینا، یہ سب) شیطانی کام ہیں پس تم ان سے بچتے رہو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب خوری اور قمار بازی کی وجہ سے تم میں باہمی عداوت اور بغض ڈالے اور یاد الہی اور نماز سے تم کو غافل کر دے۔ تو کیا (اس دشمن کے فریب سے اطلاع پا کر بھی) تم باز نہ آؤ گے؟“

خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں، میسر سے مراد جوا بازی ہے، الانصاب کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے خواہ وہ پتھر ہو یا درخت، بت ہو یا قبر یا کچھ اور ازلام بے پرکے تیر ہوتے تھے، جن سے زمانہ جاہلیت میں لوگ قسمت کی باتیں معلوم کرتے تھے۔

یہ تیر کبھی بے پرکے ہوتے تھے اور کبھی پردار اور کبھی فال نکالنے کے لئے کنکریاں استعمال کی جاتی تھیں۔ ایک تیر یا کنکری پر لکھا ہوتا تھا ”میرے رب کا حکم ہے“ اور دوسری پر لکھا ہوتا تھا ”میرے رب کا حکم نہیں“ جب کوئی شخص شادی یا سفر یا دوسرا اہم کام کرنا چاہتا تو تیر یا کنکری کی تھیلی میں ہاتھ ڈالتا اگر اجازت والا تیر یا کنکری نکلے تو کام کرنا اور دوسری نکلے

تو نہ کرتا۔ شیطان لوگوں کو ان چاروں چیزوں پر آمادہ کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں خود تو گمراہی ہیں ہی، اس کے ساتھ وہ مضر نتائج اور برے اثرات کا سبب بھی بنتی ہیں مثلاً شراب شرابی کی عقل کو کھاجاتی ہے جب اس کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے تو وہ تباہ کن اور حرام چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں عثمان بن عفان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ”شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، پچھلے زمانہ میں ایک آدمی تھا جو لوگوں سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، ایک غلط عورت اس پر فریفتہ ہو گئی عورت نے اس کے پاس اپنی لونڈی بھیجی اور گواہی کے بہانہ سے اس کو اپنے گھر بلایا، وہ آدمی لونڈی کے ساتھ آیا، جب وہ ایک دروازہ میں داخل ہوتا لونڈی دروازہ بند کر لیتی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت عورت کے کمرے میں پہنچا جس کے پاس ایک بچہ اور شراب کا ایک جام رکھا ہوا تھا، عورت نے کہا: میں نے بخدا تم کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس کے لئے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کرو یا شراب پیو، بلا خر عورت نے اس کو شراب پلا دی، اس نے کہا: اور پلاؤ پھر اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا! شراب اور ایمان کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یا تو شراب ہوگی یا ایمان“۔ اس کو بیہوشی نے روایت کیا، ابن کثیر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔“

صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں میں مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے کچھ صحابہ کی دعوت کی پھر ان کو شراب پلائی۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ جب ان لوگوں کو نشہ آیا تو وہ آپس میں فخر و تکبر کرنے لگے، بات ہاتھ پائی تک پہنچ گئی، سعد بن وقاصؓ کو اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک آدمی نے ان کو اونٹ کے جڑے کی ہڈی پھینک ماری جس سے ان کی ناک زخمی ہو گئی اور اس کا نشان زندگی بھر نہیں مٹ سکا۔ اسی طرح ایک صحابی حرمت شراب سے پہلے نشہ کی حالت میں نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور یہ آیت اس طرح تلاوت کی:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ ۖ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ کی بجائے ﴿اعبد﴾ کہا، (جس

کا معنی یہ ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں! اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی: ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ ”جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، (نماز اس وقت پڑھنی چاہیے) جب کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔“ [النساء: ۴۳]

ہم نے بوڑھے خزانٹ کو دیکھا ہے جب وہ شراب پیتا ہے تو پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ بڑے چھوٹے سب اس پر قہقہے لگاتے ہیں وہ بیچ راستہ میں سو جاتا ہے اور تمام لوگ اس کو روندتے ہوئے گزرتے ہیں۔

جو ابھی شراب کی طرح خطرناک بیماری ہے۔ اگر یہ انسان کے نفس میں جڑ پکڑ لے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس میں وقت اور دولت کی بربادی بھی ہے، اس سے عداوت و دشمنی جنم لیتی ہے، اور انسان حرام خوری کی راہ پر لگ جاتا ہے۔

شیطان مجسمے اور آستانے تعمیر کرواتا ہے تاکہ بعد میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جانے لگے۔ مجسمہ اور آستانہ پرستی قدیم اور جدید ہر زمانے میں عام رہی ہے، شیطان ان مجسموں اور آستانوں کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، کبھی آستانہ پرستوں سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے پھر وہ ضرورت کے وقت وہیں آتے ہیں، اس کے آگے نذرانے گزارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہاں پر رقص و سرود کی محفلیں جمتی ہیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ شیطان نے اس ہتھکنڈے کے ذریعہ بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے اپنے رب سے دعا کرتے وقت کہا تھا:

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلْنِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾

”اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے پروردگار! ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔“ [ابراہیم: ۳۵-۳۶]

مسلمانوں میں قبر پرستی کی لعنت ہمیشہ رہی ہے۔ وہ قبروں پر دعا کرنے اور نذر نیاز چڑھانے جاتے ہیں۔ اور آج تو ایک نئی بدعت عام ہو گئی ہے جس سے شیطان بھی انسانوں پر نپس رہا ہے وہ یہ کہ کسی نامعلوم فوجی یا سپاہی کا مجسمہ نصب کر دیا جاتا ہے اور یہ

تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مجاہد سپاہی کا میموریل ہے اس کے سامنے تحفے پیش کئے جاتے ہیں اس کی گردن میں پھول کی مالا پہنائی جاتی ہے، جب کوئی لیڈر ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ بھی اس مجسمہ پر حاضری دے کر اس کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے یہ سب بت پرستی ہے جو شیطانی کام ہے۔

فال نکالنا: مستقبل کی باتیں اللہ کا سربستہ راز اور اس کا مخفی علم ہے اس لئے نبی ﷺ نے شادی، سفر یا دوسرے کاموں میں ہمارے لئے استخارہ کی نماز مقرر فرمائی تاکہ ہم اللہ سے اپنے لئے اچھی چیز کی درخواست کریں۔ اور اسلامی شریعت نے تیروں کے ذریعہ فال نکالنے کو غلط قرار دیا ہے کیونکہ تیر یا دوسری چیزیں نہیں جانتیں کہ خیر اور اچھائی کس جگہ ہے لہذا ان چیزوں سے مشورہ لینا عقل کی خرابی اور سراسر جہالت ہے، اسی طرح فال نکالنے کے لئے پرندوں سے مدد لینا بھی غلط ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی سفر کرنا چاہتا تو گھر سے نکلنے کے بعد پرندہ کو اڑاتا تھا اگر وہ دہنی جانب اڑتا تو اس سفر کو مبارک سمجھا جاتا اور بائیں جانب اڑتا تو منحوس سمجھا جاتا، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔

### ۱۵۔ جادوگری:

شیطان انسان کو جادوگری کے ذریعہ بھی گمراہ کرتا ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتا ہے جس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے ذریعہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کو شیطان اپنی فوج کا اہم کارنامہ سمجھتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ الْمَلِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفِرُقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِبِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذَنُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا يَبْضُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۰۲]

”حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو

جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بائبل میں دو فرشتوں، ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ (فرشتے) جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ ”دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو“ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں، ظاہر تھا کہ اذان الہی کے بغیر وہ اس ذریعہ سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لئے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔“

### جادو کی حقیقت:

جادو کی حقیقت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض تخیل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [ط: ۶۶] ”یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاشیاں ان کے جادو کے زور سے حضرت موبیٰ عليه السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔“

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ (۱۰۲) سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو محض تخیل ہے اور جس کا دار و مدار شعبہ بازی اور ہاتھ کی صفائی پر ہے۔ دوسری وہ جو حقیقت میں جادو ہے اس کے ذریعہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جاتی اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔

نبی ﷺ پر یہودی کی جادوگری: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ: بنو زریق کے لیبید بن اعصم نامی ایک یہودی نے نبی ﷺ پر جادو کر دیا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں حالانکہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب سے کئی مرتبہ دعا کی پھر فرمایا: اے عائشہ! کیا تم جانتی ہو کہ میں نے اللہ سے جس معاملے میں دعا کی تھی اس نے میری دعا کو قبول کر لیا؟ میرے پاس

دو آدمی آئے، ایک میزے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ سرہانے والے نے پائنتی والے سے یا پائنتی والے نے سرہانے والے سے کہا: اس شخص کو کون سی بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کا اثر ہے۔ اس نے کہا: اس پر جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا: لیبید بن اعصم نے۔ اس نے کہا: کس چیز میں؟ دوسرے نے کہا: گنگھی کے بالوں اور کھجور کے کھوکھلے ٹھکونے میں۔ اس نے کہا: یہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا: ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے (اور اس کو دیکھا) پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اس کنویں کا پانی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں مہندی آمیزہ ہو، اس کا کھجور کا درخت ایسے لگتا تھا گویا شیطانوں کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ آنحضرت سے کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو (بال اور کھجور کا ٹھکونہ جس میں جادو کیا گیا تھا) کیوں نہیں جلا ڈالا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مجھے تو اللہ نے شفا دے دی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کروں، اس لئے اس کو دفن کروادیا۔ (بخاری و مسلم)

اس واقعہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نبی ﷺ پہ جادو کے اثر سے آپ کی نبوت و رسالت میں بھی التماس پیدا ہوا کیونکہ جادو کا اثر آپ کے جسم اطہر سے تجاوز کر کے دل و دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسری بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری تھی جو آپ کو لگ گئی تھی بشریت کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا تھا۔ ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

”ہم نے ذکر (قرآن و شریعت) کو نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔“

## ۱۶۔ انسان کی کمزوری:

انسان کے اندر کمزوری کے بہت سے پہلو ہیں، جو حقیقت میں بیماریاں ہیں، شیطان ان بیماریوں پر گہری نظر رکھتا ہے بلکہ انسان کے نفس تک پہنچنے کے لئے یہی بیماریاں شیطان کے لئے دروازہ ثابت ہوتی ہیں۔ چند بیماریاں یہ ہیں: کمزوری، تاامیدی، اترہٹ، خوشی، غرور، فخر، ظلم، زیادتی، ناحق انکار، ناشکری، جلد بازی،

اوپچھاپن، حماقت، بخل، لالچ، حرص، لڑائی، جھگڑا، شک و شبہ، جہالت، غفلت، دھوکہ بازی، جھوٹا دعویٰ، گھبراہٹ، بے صبری، کنجوسی، تہرد، سرکشی، حد شکنی، زرپرستی اور دنیا داری..... اسلام نفس کی روح اور اس کی بیماریوں سے نجات دلوانا چاہتا ہے، یہ کام زبردست جدوجہد کا طالب ہے۔ اس میں راستے کی دشواریوں کو انگیز کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہشات کی اتباع اور نفس امارہ کی پیروی بہت آسان کام ہے۔ پہلے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک چٹان کو پہاڑ پر لے جا رہا ہو اور دوسرے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو چٹان کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف دھکیلے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی بات ماننے والوں کی ہمیشہ اکثریت رہی اور مبلغین حق کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت دشواریاں اٹھانی پڑیں۔ ذیل میں سلف کے کچھ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ شیطان کس طرح انسان کے کمزور پہلوؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۱۔ معتمر بن سلیمان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا: ”مجھے بتایا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان خوشی اور غم کے وقت انسان کے دل میں تیزی کے ساتھ ابھرتا ہے، اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر ۷/۴۲۳)

۲۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں: ”ایک راہب کو شیطان نظر آیا تو اس نے اس سے پوچھا انسان کی کس عادت سے تمہیں سب سے زیادہ مدد ملتی ہے؟ شیطان نے کہا: جوش سے، انسان جب جوش میں ہو تو ہم اسے اسی طرح گھماتے ہیں جس طرح کھلاڑی گیند کو۔“ (تلمیس ایلیس رص ۴۲)

۳۔ علامہ ابن جوزی نے ابن عمرؓ سے یہ بھی نقل کیا کہ: حضرت نوحؑ نے شیطان سے پوچھا کہ وہ کن خصلتوں کی وجہ سے انسان کو تباہ کرتا ہے۔ شیطان نے کہا: ”حسد اور لالچ سے۔“ دور جانے کی ضرورت نہیں حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کو دیکھئے، شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا اور تمام بھائیوں کے دلوں میں اپنے بھائی کے خلاف حسد کی آگ کیسے بھڑکائی! حضرت یوسفؑ نے کہا تھا: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُونِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخْوَتِي﴾ [یوسف: ۱۰۰]

”اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو میرے لاکر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔“



### ۱۷۔ عورت اور دنیا سے محبت :

نبی اکرم ﷺ ہمیں بتا چکے ہیں کہ آپ کے بعد آدمیوں کے لئے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اس لئے عورت کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اور آدمیوں کو نظر نیچے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی ﷺ نے تنہائی میں عورت کے ساتھ ملنے سے منع کیا اور بتایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملے گا دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ سنن نسائی میں ہے کہ:

”عورت چھپائی جانے والی چیز ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو شیطان اس کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہے۔“

نبی ﷺ کے کہنے کے مطابق آج ہم اپنی آنکھوں سے عورتوں کی اکثریت کو نیم برہنہ سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مشرق و مغرب میں ایسے ادارے قائم ہیں جہاں ننگی تصویروں، فحش ناولوں، اور بدکاری کو پیش کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دینے والی بلیو فلموں کے ذریعے بے حیائی اور آوارگی کو فروغ دینے کے لئے عورتوں اور مردوں کا ایک زبردست فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے۔

دنیا پرستی ہر برائی کی جڑ ہے، خونریزی، عصمت دری، دوسروں کی دولت پر ڈاکہ ڈالنا، تعلقات کو ختم کرنا یہ سب نتیجہ ہے دنیا کو حاصل کرنے اور چند روزہ عزت و شہرت کی لالچ کا۔

### ۱۸۔ گیت و سنگیت اور موسیقی :

گیت اور سنگیت یہ دو ایسے جھٹکنڈے ہیں جن کے ذریعے شیطان دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا اور نفس کو تباہ کر دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

”دشمن خدا (شیطان) کا ایک حربہ جس کے ذریعے اس نے کم علموں اور نادانوں کو فریب دیا، جاہلوں اور باطل پرستوں کے دلوں کا شکار کیا، سبھی بجانا، تالی پیٹنا اور حرام گانا بجانا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان دلوں کو قرآن سے پھیر کر فسق و فجور کی طرف مائل

کردیتا ہے، یہ شیطان کا قرآن ہے، رحمن سے روکنے کے لئے دیز پردہ ہے، لواطت اور زنا کاری کا منتر ہے، اس سے شیطان نے باطل پرور لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کی نگاہوں میں اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا، اور اس کے حسن و جمال کو ثابت کرنے کے لئے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کی وحی کی۔ انہوں نے شیطان کی وحی کو سر آنکھوں پر رکھا اور قرآن کی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا.....!“ (اعانۃ المہمان: جلد ۱ صفحہ ۲۳۲)

تعب خیز بات یہ ہے کہ کچھ عبادت کے دعوے دار گانے بجانے اور ناچنے تھرکنے کو عبادت کا طریقہ کہتے ہیں، یہ لوگ رحمانی سماع کو چھوڑ کر شیطانی سماع کے پاس جاتے ہیں۔ ابن قیمؒ نے اپنی اسی کتاب (اعانۃ، ج ۱ ص ۲۵۶) میں اس سماع کو کئی نام سے یاد کیا ہے مثلاً لہو، لغو، باطل، جھوٹ، سیٹی، تالی، زنا کاری کا منتر، شیطان کا قرآن، دل میں نفاق کی جز، احمق آواز، بیہودہ آواز، شیطان کی آواز، شیطان کا باجا وغیرہ وغیرہ۔ علامہ نے گانے بجانے کی حرمت کو دراز نفسی سے بیان کیا ہے اگر آپ کو تفصیل مطلوب ہو تو ان کی کتاب کی طرف رجوع کیجئے۔

### ۱۹۔ شریعت کی پابندی میں سستی:

مسلمان اپنے اسلام پر پابندی سے کار بند رہے تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے لیکن شریعت کے کسی معاملے میں ذرا سستی سے کام لیا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلُّوا لِي السَّلْمَ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ۲۰۸]

”اے ایمان والو! سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور (بعض کو کرنے اور بعض کو چھوڑنے میں) شیطان کے پیچھے مت چلو (اس لئے کہ) وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

اسلام کے سب احکام کی فرمائندگی سے ہی شیطان سے نجات مل سکتی ہے۔ مثلاً نمازیوں کی صفیں ایک دوسرے سے پیوست ہوں تو شیطان نمازیوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتا لیکن اگر صفوں میں کشادگی ہو تو وہ نمازیوں کی صفوں کے بیچ میں در آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ:

”صفوں کو درست کرو، شیاطین ”حذف“ کی اولاد کی طرح تمہارے بچ میں نہ گھس آئیں، لوگوں نے کہا: حذف کی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یمن کی بغیر کان اور دم والی چھوٹی بھیریں۔“ [صحیح الجامع (۳۸۴/۱) اس کو احمد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا]

دوسری حدیث میں ہے: ”مفیں سیدھی کرو، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہاری صفوں میں شیاطین کو خاکستری بکریوں کی طرح (گھسے ہوئے) رکھتا ہوں۔“ [صحیح الجامع (۳۸۴/۱)]

### شیطان کا انسان کے نفس تک پہنچنے کا راستہ:

وسوسہ: شیطان انسان کے دل و دماغ تک ایسے ڈھنگ سے پہنچتا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو اس کام میں ہماری اتمام طبع سے بھی مدد ملتی ہے، اسی کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور اسی لئے شیطان کو ”وسواس“ کہا ہے:

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ۳-۵]

”(میں پناہ مانگتا ہوں) چھپ چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔“

حافظ ابن کثیر ”الواس الخناس“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ: ”شیطان ابن آدم کے دل پر سوار ہے اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔“ [صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔“

اسی وسوسہ سے اس نے حضرت آدم کو بہکا کر شجرہ ممنوعہ کا پھل کھلایا تھا۔ ارشاد باری ہے:

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمُ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْبِ وَمُلْكٌ لَّيْلِي﴾

”پھر بھی (باوجود اس تنبیہ و اعلان کے) شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، اور کہا: اے آدم میں تجھ کو دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتاؤں، جو کبھی پرانی نہ ہو“ [طہ: ۱۲۰]

شیاطین کبھی انسانوں کا بہروپ بھرتے ہیں، کبھی انسان سے بات کرتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام بھی لیتے ہیں۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ!

## باب نہم (۹)

## شیطان سے مقابلہ کرنے کے لئے مومن کا ہتھیار

## ۱۔ احتیاط:

یہ مکار اور خبیث دشمن بنی آدم کی گمراہی کا بہت خواہاں ہے۔ ہم اس کے گمراہ کرنے کے مقاصد اور ذرائع سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس دشمن کے اغراض و مقاصد، وسائل و ذرائع اور گمراہ کرنے کے طریقوں سے جتنی واقفیت ہوگی، ہم اتنا ہی اس سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اگر انسان ان تمام باتوں سے غافل رہے گا تو اس کا دشمن اسے قید کر کے جس راستہ پر چاہے گا، لے جائے گا۔

## ۲۔ قرآن وحدیث کی پابندی:

شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ علمی اور عملی طور پر قرآن وحدیث کی پابندی کی جائے، قرآن وحدیث میں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں اس راستہ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الانعام: ۱۵۳]

”نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو مبادا کہ وہ اس کے راستہ سے ہٹا کر تمہیں منتشر کر دیں، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو۔“

نبی ﷺ نے اس آیت کی وضاحت و تشریح اس طرح کی کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا: یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے پھر دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچیں اور فرمایا:

﴿یہ فصل "عالم الحن والشیاطین" (ص ۱۴۳ تا ۱۶۶) سے ماخوذ ہے۔﴾

یہ (گمراہی) کے راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا لوگوں کو اس راستہ کی طرف بلا رہا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ (احمد، حاکم۔ نسائی)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ عقائد، اعمال، اقوال، عبادات اور تشریحات کی پیروی کرنے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے گریز کرنے سے بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اسی لئے اللہ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ۲۰۸]

”اے ایمان والو! تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

”سلم“ سے مراد اسلام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ مقاتل نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد تمام اعمال اور نیکی کی تمام شکلوں کو بجالانا ہے۔ لہذا آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے لوگوں کو اسلام کے جملہ احکام اور ایمان کے تمام شعبوں پر حتی الامکان عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ شیطان اور اس کے نقوش قدم سے دور ہو جاتا ہے اور جو اسلام کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے وہ شیطان کے کسی حکم کا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یا حرام اور گندی چیزیں کھانا یہ سب شیطان کے نقش قدم کی پیروی میں شامل ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ۱۶۸]

”لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

قول و عمل میں قرآن و حدیث کی پابندی کرنے سے شیطان دور بھاگتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، اور سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”جب آدمی سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے وائے ناکامی! ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لئے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے نافرمانی کی۔ میرے لئے جہنم ہے۔“

۳۔ اللہ کے حضور میں پناہ مانگنا:

شیطان اور اس کی فوج سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں رجوع کیا جائے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے اس لئے کہ وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ اپنے بندے کو پناہ دے دے تو شیطان بندے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الاعراف: ۱۹۹-۲۰۰]

”اے نبی! نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کئے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ وہ شیطان کے دوسوں اور اس کے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَقُلْ رَبِّ اعْوِذْ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ﴾

”اور دعا کرو کہ ”پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اے میرے رب! میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔“ [المومن: ۹۷-۹۸]

”هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ“ سے مراد شیطانی خیالات و وساوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان دشمن سے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے اس لئے کہ شیطان احسان و رشوت قبول نہیں کرتا۔ اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ ابن آدم ہلاک و برباد ہو جائے کیونکہ اس کو آدم اور ابن آدم سے سخت بیز ہے۔ نبی ﷺ مختلف طریقوں سے شیطان سے اللہ کی بکثرت پناہ مانگتے تھے چنانچہ نماز میں افتتاحیہ دعا کے بعد فرماتے:

((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ))

”میں اللہ کی جو سننے اور جاننے والا ہے، پناہ مانگتا ہوں شیطان کے دوسرے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے چادوسے۔“ (بروایت سنن اربعہ)

”همز“ کی تفسیر گلا گھونٹنے سے ”نفع“ کی تکبیر سے اور ”نفث“ کی شعر سے بھی کی گئی ہے۔

پاخانہ میں داخل ہوتے وقت پناہ مانگنا: آپؐ جب پاخانہ میں داخل ہوتے تو زور اور مادہ ہرتم کے شیطان سے پناہ مانگتے جیسا کہ صحیحین میں انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ جب نبیؐ پاخانہ میں داخل ہوتے تو فرماتے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُبُثِ وَالْغَبَائِثِ))

”اے اللہ! ناپاک شیطانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

مسند احمد اور سنن ابوداؤد میں بسند صحیح زید بن ارقم سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ نبیؐ نے فرمایا: ”یہ پاخانہ خطرے کے آماجگاہ ہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص پاخانہ میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغُبُثِ وَالْغَبَائِثِ“ ناپاک شیطانوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔“

غصہ کے وقت پناہ مانگنا: نبیؐ کے پاس دو آدمیوں میں آپس میں گالی گلوچ ہو گئی، ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ نبیؐ نے فرمایا: مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ اگر وہ اسے پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، صحابہ نے کہا: وہ کون سا جملہ ہے اے اللہ کے رسولؐ؟ آپ نے

فرمایا: اسے یہ پڑھنا چاہیے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

”اے اللہ! میں سرکش شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

نبیؐ نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی:

((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكِهِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهْ، وَإِنْ اقْتَرَفَ عَلَيَّ غِيظُكَ أَوْ غِيظُ سَوْءٍ)) (اس کو ترمذی نے بسند صحیح روایت کیا۔ بحوالہ صحیح الجامع ۵۶۶)

”اے اللہ! آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے ہر چیز کے مالک و پالنے والا! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی شرارت و شرک سے اور اس بات سے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں۔“

جماع کے وقت پناہ مانگنا: نبیؐ نے ہمیں اس وقت بھی استعاذہ کی تاکید فرمائی جب آدمی اپنی بیوی سے ہمبستری کرے، آپ نے یہ دعا سکھائی:

((بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)) (بخاری و مسلم)

”اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ۔“  
گدھے کے چیخنے کے وقت پناہ مانگنا: نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”جب گدھا چیخے تو تم سرکش شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔“ (صحیح الجامع ۲۸۶)

بال بچوں کی حفاظت کی دعا کرنا: رسول اللہ ﷺ حسن اور حسینؑ کی حفاظت کی دعا کرتے اور فرماتے:

((أُعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَّامِيَةٍ))

”میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور سودی جانور سے اور نظر بد سے۔“ پھر فرماتے: ”میرے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی حفاظت کے لئے اسی طرح دعا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

پناہ مانگنے کی بہترین دعا: سب سے بہتر دعا جس کے ذریعہ پناہ مانگی جائے سورہ ”فلق“ اور سورہ ”ناس“ ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”لوگ ان دونوں سورتوں سے بہتر کسی بھی سورہ کے ذریعہ پناہ نہیں طلب کر سکتے یعنی

”قل اعوذ برب الفلق او ر قل اعوذ برب الناس“ (نسائی)

عظیم نکتہ: سلف میں سے کسی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا: اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اس سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا: اگر وہ دوبارہ ایسا کرے؟ اس نے کہا پھر لڑوں گا۔ انہوں نے کہا: اس کا سلسلہ تو دراز سے دراز تر ہوتا جائے گا۔ بتاؤ اگر تم بکریوں کے کسی گلہ کے پاس سے گزرو اور اس گلہ کا محافظ کتابھونکنے لگے یا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا: حسب طاقت اس کا مقابلہ کر کے اس کو دفع کروں گا۔ انہوں نے کہا اس میں بات لمبی ہو جائے گی اس کی بجائے بکریوں کے مالک سے امداد حاصل کرو، وہ تم سے کتے کو روک دے گا۔“ (اسی طرح شیطان سے بچنے کے لئے اس کے مالک و خالق سے پناہ مانگی چاہئے)۔ (تلمیس ایلینس ص ۲۸)



یہ اس بزرگ عالم کا عظیم تفقہ ہے۔ اللہ کی حفاظت و پناہ ہی وہ موثر ہتھیار ہے جو شیطان کو دور رکھ سکتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا:

﴿وَأِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ۳۶]

”اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

ایک شبہ: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں دوسوہ ڈالتا ہے، ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے اور نماز میں ہمارے دل و ذماغ کو الجھا دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استعاذہ کی مثال ایسے ہے جیسے لڑنے والے کے ہاتھ میں تلوار۔ اگر لڑنے والے کا ہاتھ مضبوط ہے تو وہ اپنے دشمن کو قتل کر سکتا ہے ورنہ تلوار خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس کا دشمن پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہی حال استعاذہ کا ہے اگر متقی و پرہیزگار شخص استعاذہ کرتا ہے تو وہ شیطان کے لئے آگ ثابت ہوگا جس میں شیطان بھسم ہو کر رہ جائے گا اور اگر کمزور ایمان والا استعاذہ کرتا ہے تو اس کا دشمن پر پائیدار اور خاطر خواہ اثر نہ ہوگا۔ لہذا جو مسلمان شیطان اور اس کے پھندے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے اپنا ایمان مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہئے وہی صاحب قوت و سطوت ہے۔

### ۴۔ ذکر الہی میں مشغولیت:

ذکر الہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جو بندے کو شیطان سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ نے بنی اسرائیل کو پانچ چیزوں کی تاکید فرمائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی: ”میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہوں، وہ ایک مضبوط قلعہ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی حال بندے کا ہے وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے مضبوط قلعے کے ذریعہ ہی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔“

علامہ ابن قیمؒ ”الواہل الصیب“ میں (ص ۶۰ پر) رقمطراز ہیں:

”اگر ذکر الہی کی صرف یہی ایک خصوصیت ہوتی تب بھی بندے کے لئے مناسب تھا کہ

اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی نہ ٹھکتی۔ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہتا، اس لئے کہ وہ ذکر ہی کے ذریعہ اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دشمن اس پر غفلت ہی کی حالت میں حملہ کرتا ہے، اس پر دشمن کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، جب وہ غافل ہوتا ہے دشمن حملہ کر کے اس کا شکار کرتا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دشمن پیچھے ہٹ جاتا اور ایسا سکر جاتا ہے جیسے مولایا بکھی۔ اسی لئے اس کو ”الوسواس الخناس“ کہتے ہیں یعنی وہ دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

### ۵۔ مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی:

مسلمان کے لئے شیطان کے پھندے سے بچنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دیارِ اسلام میں سکونت اختیار کرے اور اپنے لیے ایسی صالح جماعت کو منتخب کرے جو حق کے معاملہ میں تعاون کرنے والی، حق بات کی ترغیب دینے والی، برائیوں سے روکنے والی، اور بھلائیوں کی دعوت دینے والی ہو۔ اتحاد و اتفاق میں غیر معمولی طاقت ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

”تم میں سے جو شخص جنت کی راحت و وسعت کا خواہشمند ہے اسے جماعت سے وابستہ رہنا چاہئے، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور بھاگتا ہے۔“ (ترمذی: حسن صحیح)

جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اسلام میں اس وقت تک جماعت کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ وہ حق یعنی کتاب و سنت کی پابند نہ ہو۔ حدیث میں ہے:

”جس دیہات یا بستی میں تین افراد ہوں اور وہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، تم لوگ جماعت سے وابستہ رہو، ریوڑ سے علیحدہ بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔“ (ابوداؤد، نسائی وغیرہ اس کی سند حسن ہے)

سنن ابوداؤد میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہا: سنو! ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”سنو! تم سے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے! یہ ملت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، بہتر فرقے جہنم میں ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہے۔“ (جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے یعنی قرآن و سنت پر چلیں گے)

## ۶۔ شیطانی منصوبوں اور نام نہاد عالموں کی نقاب کشائی:

مسلمانوں کو تمام شیطانی راستوں اور گمراہ کن وسائل و ذرائع سے باخبر رہنا چاہیے اور ان کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اور نبی ﷺ نے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دیا ہے چنانچہ شیطان نے آدم کو جس ہتھکنڈے کے ذریعے گمراہ کیا تھا، قرآن نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا اور نبی ﷺ بھی صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ شیطان کس طرح چوری چھپے آسمان پر جا کر اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے اور پھر اس سنی ہوئی بات کو کاہن یا جادوگر کے کان میں سوجھوٹ ملا کر ڈال دیتا ہے۔ آپ صحابہ کو یہ اس لئے بتاتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ نے صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ شیطان کس طرح ان کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا اور نماز و عبادات میں دل و دماغ کو الجھاتا اور کس طرح یہ وہم دلاتا ہے کہ ان کا وضو فاسد ہو چکا ہے۔ حالانکہ وضو فاسد نہیں ہوتا ہے اور کس طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے اور کس طرح آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟

## ۷۔ شیطان کی مخالفت:

پہلے گزر چکا ہے کہ شیطان انسان کا ہمدرد اور خیر خواہ بن کر آتا ہے اس لئے آدمی کو چاہئے کہ اس کی ہر بات کی مخالفت کرے اور اس سے کہے کہ اگر تم کسی کے ہمدرد ہوتے تو پہلے اپنے آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے۔ تم خود کو جہنم میں جھونک کر رب العالمین کے غضب کے مستحق ہو چکے۔ لہذا جو اپنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کا کیا خیر خواہ ہوگا۔ حارث بن قیس کہتے ہیں: ”اگر نماز کے وقت تمہارے پاس شیطان آئے اور کہے کہ تم ریا کاری کر رہے ہو تو تم نماز اور لمبی کر دو۔“ (تلمیس ابلیس ص ۳۸) یہ حارث بن قیس کا اپنا ذاتی تفسیر ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کو جو بھی چیز پسند ہو، ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہئے۔ مثلاً شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اس لئے ہمیں اس کے مخالفت کرنی چاہئے۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

”تم میں سے کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، پئے تو داہنے ہاتھ سے پئے۔ پکڑے تو داہنے ہاتھ سے پکڑے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔“ (ابن ماجہ بحوالہ صحیح الجامع ۸۱۵)

اگر ہم کھڑے ہو کر پیئیں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ پینے میں شریک رہتا ہے اس لئے نبی نے ہمیں بیٹھ کر پینے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح آنحضرت نے ہمیں قبیلو (دوپہر کو آرام) کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، اس کی علت یہ بتائی کہ

﴿قِيلُوا فَاانِ الشَّيَاطِينِ لِاتَّقِيلَ﴾ ”قبیلو کرو کیونکہ شیطان قبیلو نہیں کرتے ہیں۔“

(اس کو ابو نعیم نے کتاب الطب میں بسند حسن روایت کیا۔ بحوالہ صحیح الجامع ۱۳۷۴)

قرآن نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شیطان مال کو برباد کروانا اور اس کو غیر مصرف میں خرچ کروانا چاہتا ہے۔ غیر ضروری سامان اور فرنیچر وغیرہ کی بھرمار بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ آنحضرت فرماتے ہیں:

”ایک بستر آدمی کے لئے، ایک اس کی بیوی کے لئے، ایک مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہے۔“ (ابوداؤد، نسائی، احمد: بسند صحیح بحوالہ صحیح الجامع ۸۱۴)

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے ہمیں فرمایا کہ ”شیطان تمہارے ہر کام میں موجود رہتا ہے حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی اگر لقمہ گر جائے تو اس پر لگی گندگی کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے اور شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں، پتہ نہیں کھانے کے کس حصہ میں برکت ہو۔“ (مسلم بحوالہ صحیح الجامع ۷۵۲)

### جلد بازی شیطانی کام ہے:

شیطان کی ایک پسندیدہ چیز جلد بازی ہے اس لئے کہ اس سے انسان بہت سی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے:

”غور و فکر رحمانی صفت اور جلد بازی شیطانی صفت ہے۔“ (صحیح الجامع ۵۷۳)

لہذا ہمیں اس معاملہ میں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے اور وہی کرنا چاہئے جو رحمان کو پسند ہے۔ اسی لئے نبی نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا تھا: ”تم میں دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ ایک بردباری اور دوسری غور و فکر۔“

## جمائی لینا:

شیطان کو انسان کی ایک عادت جمائی لینا بھی پسند ہے۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے ہمیں حتی الامکان اسے روکنے کا حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”جمائی لینا شیطانی فعل ہے، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہئے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ”ہا“ تو اس سے شیطان ہنستا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

یہ اس لئے کہ جمائی سستی کی علامت ہے اور شیطان کے لئے یہ بات باعث مسرت ہے کہ انسان سست و کاہل پڑ جائے کیونکہ اس سے اس کی اس کارکردگی اور جدوجہد میں کمی ہوگی جو اس کو اللہ کے نزدیک بلند کر سکتی ہے۔

## ۸۔ توبہ اور استغفار:

شیطان کے فریب کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب شیطان اسے گمراہ کرے تو وہ فوراً اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کر لے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی وطیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

”حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔“ [الاعراف: ۲۰۱]

”طائف“ کی تفسیر گناہ کا ارادہ کرنے یا گناہ کرنے سے کی گئی ہے۔ نیز اللہ کا یہ قول ”وہ یاد کرتے ہیں“ یعنی وہ اللہ کے عقاب و ثواب اور وعدہ و وعید کو یاد کرتے اور اس کی جناب میں فوراً توبہ و استغفار، انابت و رجوع کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یعنی وہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کے بعد اچانک محسوس کرتے ہیں کہ وہ گمراہی کی جس کیفیت میں تھے اس سے اب بالکل شفا یاب ہو چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان، انسان کے دل و نگاہ پر شکوک و شبہات کے ایسے دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ یکسر اندھا ہو جاتا ہے، اسے حق و صداقت کی راہ نظر نہیں آتی۔

یہ تو اللہ کے بندوں کا حال ہے کہ وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ و انابت کرتے ہیں۔ اس معاملہ میں ان کے سامنے بابا آدم کا اسوہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو وہ اور ان کی بیوی دونوں اللہ کے دربار میں متوجہ ہو کر کہنے لگے:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”اے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم نہ کرے تو ہم

خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“ [الاعراف: ۲۳]

لیکن شیطان کے گرگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [الاعراف: ۲۰]

”اور ان کے (یعنی شیاطین کے) بھائی بند تو انہیں ان کی کج روی میں کھینچنے لئے چلے

جاتے ہیں اور انہیں بھکانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔“

یہاں ”بھائیوں“ سے مراد انسانوں میں سے شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الاسراء: ۲۷]

”فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔“ یعنی یہ شیطان کے

پیر و کار اور ان کے حکم کے تابعدار ہیں۔

يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ (کج روی میں کھینچنے لئے چلے جانے) کا مطلب یہ ہے کہ

پوری تندی سے گناہوں کے کاموں کو حسین شکل میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے

فرمایا: ﴿الَّذِينَ تَرَاءُوا أَنَا رَسُولَنَا الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكُفْرَيْنِ تَوَدُّهُمْ أَزْوَاجًا﴾ [مریم: ۸۳]

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب

(مخالفتِ حق پر) اکساتے رہتے ہیں۔“

## ۹۔ شک و شبہ کا ازالہ جس سے شیطان دلوں میں پہنچ سکتا ہے:

مشکوٰۃ جگہوں سے پرہیز کرنا چاہئے اگر ایسا ہو بھی جائے تو لوگوں کو صحیح صورت حال

سے آگاہ کر دینا چاہئے تاکہ شیطان کو مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کا موقع نہ

مل سکے۔ اس معاملہ میں آپ کے لئے نبی اکرم ﷺ کا نمونہ موجود ہے۔ صحیح بخاری



وسلم میں نبی کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حبیبی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ:

”نبی اکرم ﷺ اعکاف میں تھے، میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لئے آئی، کچھ گفتگو ہوئی، پھر میں واپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے گھرنیک چھوڑنے کے لئے کھڑے ہوئے (حضرت صفیہ کا مسکن اسامہ بن زید کے گھر میں تھا) وہاں سے دو انصاریوں کا گزر ہوا جب انہوں نے نبی کو دیکھا تو رفتار تیز کر دی۔ نبی نے فرمایا: آہستہ آؤ یہ (کوئی غیر عورت نہیں، میری بیوی) صفیہ بنت حبیبی ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا: سبحان اللہ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: شیطان انسان کے رگ وریشہ میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے۔“

امام خطابؓ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر ایسی مکروہ چیز سے پرہیز کرنا چاہئے جس پر لوگوں کی نگاہ غلط انداز میں پڑ سکتی ہو۔ اور مٹھوک چیز سے بیزاری کا اعلان کر کے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔“

اس سلسلے میں امام شافعیؒ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ: ”نبی اکرم ﷺ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا دونوں کے دل میں آپ کے تئیں کوئی غلط فہمی ہو جائے اور وہ کافر ہو جائیں۔ آپ نے یہ بات ان پر ترس کھا کر کہی تھی نہ کہ اپنے آپ پر“ (تلمیس ابلیس ص ۴۶)

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب چیزوں کی تاکید کی ان میں دوسروں کے ساتھ خوش گفتاری بھی ہے تاکہ شیطان ہمارے اور ہمارے اپنے بھائیوں کے بیچ میں گھس کر عداوت و دشمنی نہ ڈال سکے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ [الاسراء: ۵۳]

”اور اے نبی! میرے بندوں (یعنی مومن بندوں) سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں

جو بہتر ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔“

اس بارے میں کچھ لوگ تسائل برتتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس میں کئی احتمالات ہوں۔ جن میں کچھ احتمال غلط بھی ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے بھائی کو ایسے الفاظ و القاب سے پکارتا ہے جو اس کو ناپسند ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز شیطان کے لئے دروازہ بن جاتی ہے شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے اور اتحاد و محبت کی جگہ بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔

## باب دہم (۱۰)

## روحوں کی حاضری کی حقیقت

## شیطان کا بہروپ:

کبھی شیاطین انسان کے پاس آتے ہیں تو سوسہ اندازی کے ڈھنگ میں نہیں بلکہ کسی انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی صرف آواز سنائی دیتی ہے جسم دکھائی نہیں دیتا، کبھی کوئی اور عجیب و غریب روپ ہوتا ہے۔ شیاطین لوگوں کے پاس آ کر کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جن ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو غیب دان بتاتے ہیں، کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق روحوں کی دنیا سے ہے۔

بہر حال شیاطین کچھ لوگوں سے ہمکلام ہوتے ہیں اور ان سے ان کی براہ راست گفتگو ہوتی ہے یا انسانوں ہی میں سے کسی شخص کی زبان سے شیطان بات کرتے ہیں اس شخص کو 'مثالث' کہا جاتا ہے کبھی خط و کتابت کے ذریعہ گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی شیطان بڑے بڑے کام کرتے ہیں، انسان کو اٹھا کر ہوا میں لے اڑتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، کبھی وہ ان سے کوئی چیز طلب کرے تو ان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، لیکن شیطان اس قسم کے کام انہی گمراہ لوگوں کے لئے کرتے ہیں جو اللہ رب السموات والارض کے منکر اور بدعمل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ظاہر میں دیندار اور متقی نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں حد درجہ بے راہ روادار فاسق ہوتے ہیں۔ علماء متقدمین و متاخرین نے اس طرح کی بہت سی باتیں ذکر کی ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اور نہ ہی ان پر اعتراض کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تو اتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ انہی میں سے صوفی حلاج کا وہ واقعہ بھی ہے جس کو ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ:

”وہ (حلاج) خوبصورت تھا، اس کے پاس کچھ شیاطین تھے جو اس کی خدمت بجالاتے

○ [دیکھیے: "عالم الجن والشیاطین" ترجمہ از عبد السلام سلفی (ص ۱۴۰ تا ۱۶۷)]



تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے علاج اور اس کے کچھ ساتھی ابو نعیم نامی پہاڑ پر تھے، اس کے ساتھیوں نے اس سے مثنائی مانگی، وہ قریب ہی کسی جگہ پر گیا اور ہاں سے مثنائی کی ایک پلیٹ لے آیا، بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ یمن کی کسی مثنائی کی دوکان سے چرائی گئی تھی، اس کو اس علاقے کا شیطان اٹھا کر لایا تھا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”علاج کے علاوہ شیطانی حالت رکھنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں مثلاً ایک شخص جو ابھی (ابن تیمیہ کے زمانے میں) دمشق میں ہے، اس کو شیطان صالحیہ پہاڑ سے اٹھا کر دمشق کی کسی مضافاتی بستی میں لے جاتا تھا۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا روشن دان سے گھر کے اندر آ جاتا اور گھر میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس منظر کو دیکھتے رہتے، پھر رات کو وہ باب الصغیر (دمشق کے اس وقت کے چھ دروازوں میں سے ایک دروازہ) کے پاس آتا اور وہاں سے وہ اور اس کا ساتھی دونوں اندر آ جاتے، وہ نہایت بد کردار شخص تھا۔ ایک دوسرا شخص شاہدہ نامی بستی میں واقع شوبک قلعہ میں رہتا تھا، وہ بھی ہوا میں پرواز کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتا اور تمام لوگ اس کو دیکھتے رہتے۔ شیطان اس کو اٹھا کر لے جاتا تھا، وہ رہزنی بھی کرتا تھا۔

یہ لوگ زیادہ تر شریک ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک شخص فقیر ابو الجیب ہے۔ لوگ اندھیری رات میں اس کے لئے خیمہ نصب کرتے ہیں، تقریب کے طور پر روٹیاں بناتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہاں نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنا جانتا ہو نہ کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، پھر وہ فقیر ہوا میں اڑتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، شیطان کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، کوئی ہنسے یا روٹی چرائے تو اسے ذلی سے مار پڑتی ہے، مارنے والا نظر نہیں آتا، پھر لوگ جو باتیں پوچھتے ہیں شیطان بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے گائے، گھوڑے یا کسی جانور کی نیاز کریں، اور جانور کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے کی بجائے اس کا گلا گھونٹ دیں، ایسا کرنے پر ان کی حاجت روائی کی جائے گی۔“

ابن تیمیہ ایک اور پیرجی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس نے ان کو خود بتایا کہ ”وہ عورتوں کے ساتھ بدکاری اور بچوں کے ساتھ لونڈے بازی کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ

میرے پاس ایک کالا کتا آتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے دو سفید نقطے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے کہتا ہے: فلاں بن فلاں نے تمہارے لئے نذر مانی تھی کل ہم اس کو تمہارے پاس لے کر آئیں گے، میں نے تمہاری خاطر اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، دوسری صبح کو وہ شخص اس کے پاس نذر لے کر آتا اور یہ پیر جی اس کو شرف قبول عطا کرتے۔“

اسی پیر کے بارے میں ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ: ”جب مجھ سے کسی چیز کو بدلنے کے لئے کہا جاتا مثلاً یہ کہا جاتا کہ اس چیز کو ”لاذن“ (گوند جو بلور عطر و دوا استعمال ہوتا ہے) میں تبدیل کر دو، تو میں اس چیز کو بدل جانے کو اتنی دیر تک کہتا کہ مدہوش ہو جاتا، پھر اچانک میرے ہاتھ یا منہ میں ”لاذن“ موجود ہوتا مجھے معلوم نہیں اس کو کون رکھتا تھا۔ وہ گمراہ پیر کہتا ہے: میں چلتا تو میرے آگے آگے ایک سیاہ ستون ہوتا تھا جس میں روشنی ہوتی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب اس پیر نے توبہ کر لی، نماز روزے کا پابند ہو گیا، اور حرام چیزوں سے بچنے لگا تو کالا کتا غائب ہو گیا اور کسی چیز کو بدل دینے کی کیفیت بھی بند ہو گئی، اب وہ کسی چیز کو نہ لاذن میں تبدیل کرتا ہے نہ کسی دوسری چیز میں۔“

ایک دوسرے پیر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ شیطان تھے جن کو وہ بعض لوگوں پر سورا کر دیتا تھا، آسیب زدہ شخص کے گھر والے اس پیر کے پاس آتے اور اس سے شفا کی درخواست کرتے۔ پیر اپنے ماتحت شیطانوں سے کہتا، وہ اس شخص کو چھوڑ دیتے، آسیب زدہ شخص کے گھر والے اس پیر کو خوب روپے دیتے۔ بعض اوقات جنات اس پیر کے پاس لوگوں کا غلہ اور روپے چرا کر لاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گھروندے کے اندر کچھ انجیر رکھے ہوئے تھے، پیر نے جنوں سے انجیر کی فرمائش کی انہوں نے انجیر حاضر کر دیا، گھر والوں نے جب گھروندے کو دیکھا تو وہاں انجیر نہ تھے۔“

ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا علمی مشغلہ تھا، کچھ شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لئے آئے اور کہا کہ ہم نے تم سے نماز معاف کر دی، تم جو چاہو ہم تمہارے لئے حاضر کر دیں گے۔ چنانچہ وہ اس کے لئے مٹھائی یا پھل لے آتے، آخر کار وہ شخص کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے توجہ کی اور مٹھائی والوں کی اس نے جو مٹھائیاں کھائی تھیں ان کی قیمت ادا کی“ (جامع الرسائل لابن تیمیہ ص ۱۹۰ تا ۱۹۳)

شیطان کے گمراہ کرنے کے بعض طریقوں کو بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”جن لوگوں سے نباتات (جڑی بوٹیاں اور درخت) بات کرتے ہیں میں ان کو خوب جانتا ہوں، ان سے حقیقت میں وہ شیطان بات کرتا ہے جو نباتات میں ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن سے درخت اور پتھر ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: تم کو مبارک ہو اے اللہ کے ولی! جب وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں جو پرندوں کے شکار کو جاتا ہے تو وہ اس سے کلام کرتے اور کہتے ہیں: مجھے شکار کر دتا کہ میں غریبوں کی خوراک بن جاؤں۔ یہ بات کرنے والا دراصل شیطان ہے جو پرندوں کے جسموں میں ہوتا ہے جیسا کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر لوگوں سے بات چیت کرتا ہے۔ کچھ لوگ بند گھر میں ہوتے ہیں لیکن دروازہ کھلے بغیر وہ خود کو باہر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں لیکن دروازہ کھلے بغیر وہ خود کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ہیں۔ ان کو اصل میں جنات تیزی کے ساتھ گھر کے اندر کر دیتے ہیں یا گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کبھی انسان کے پاس سے تیزی سے روشنی گزرتی ہے یا کبھی کوئی شخص اس کی ملاقات کے لئے آتا ہے۔ یہ سب شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان کے دوست احباب کی شکل میں آتے ہیں۔ بار بار آیت الکرسی پڑھی جائے تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔“

علامہ فرماتے ہیں: ”میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جس سے کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے: میں اللہ کا حکم ہوں اور اس کو یقین دلاتا اور کہتا ہوں کہ تم وہی مہدی ہو جس کی نبی نے بشارت دی تھی، اس کے لئے کراستیں بھی ظاہر کرتا ہے مثلاً اسکے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں میں تصرف کرے، اگر اس کے دل میں پرندے کے دائیں بائیں جانے کا خیال ہوتا ہے تو پرندہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر وہ چاہتا ہے، اگر اس کے دل میں کسی جانور کے کھڑے ہونے، سونے یا جانے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بظاہر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ شیاطین اس شخص کو مکہ لے جا کر واپس لاتے ہیں، اسی طرح اس کے پاس خوبصورت اشخاص کو لاتے اور کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کے فرشتے تمہاری ملاقات کے لئے آئے ہیں، وہ اپنے دل میں

کہتا ہے: یہ بے ریش جوان کے ہم شکل کیسے ہو گئے ہوں گے؟ سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو ان کے داڑھی ہوتی ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے: تمہارے مہدی ہونے کہ یہ نشانی ہے کہ تمہارے جسم میں تل اُگے گی، چنانچہ تل اُگتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، دراصل یہ سب شیطان کی فریب کاری ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۱/۳۰۰)

علامہ فرماتے ہیں: ”اہل ضلالت و بدعت جو غیر شرعی طریقے پر ریاضت و عبادت کرتے ہیں اور جنہیں کبھی کبھی کشف بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ ان شیطانی جگہوں پر زیادہ جاتے ہیں جہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے اس لئے کہ وہاں ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں اور کچھ راز کی باتیں بتاتے ہیں جیسا کہ وہ کاہنوں کو بتاتے اور بتوں میں داخل ہو کر بت پرستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ شیاطین ان لوگوں کے بعض کاموں میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں جس طرح جادوگر اور بت پرست، سورج پرست، چاند پرست اور ستارہ پرست تو میں شیطان کی عبادت کرتی اور اس کے سامنے ذکر و تسبیح اور لباس و خوشبو کا تحفہ پیش کرتی ہیں تو شیطان ان کی مدد اور مشکل کشائی کرتا ہے، یہ تو میں شیطان کو ستاروں کی روحانیت کہتی ہیں۔“ (مجموع الفتاویٰ ج ۱۹ ص ۱۳۱)

### شیطان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کفر و شرک کا نذرانہ:

یہ لوگ جنہیں ولی ہونے کا دعویٰ ہے ان کا کام حقیقت میں شیطان کرتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کفر و شرک کے ذریعہ شیطان کا قرب حاصل کرنا پرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ”مجموع الفتاویٰ (ج ۱۹ ص ۳۵) میں فرماتے ہیں کہ ”یہ لوگ زیادہ تر اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں سے لکھتے ہیں، کبھی قرآنی آیتوں مثلاً سورہ فاتحہ یا سورہ قل ھو اللہ احد یا دوسری آیتوں کے حروف کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو خون یا دوسری ناپاک چیزوں سے بھی لکھا جاتا ہے، کبھی قرآن کے علاوہ شیطان کی دوسری پسندیدہ چیزوں کو لکھا یا پڑھا بھی جاتا ہے۔ جب یہ لوگ شیطان کی پسندیدہ چیزوں کو لکھتے یا ان کا ورد کرتے ہیں تو وہ بعض کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے مثلاً کسی کنوئیں کا پانی گہرائی میں کر دیا، کسی کو ہوا میں اڑا کر دوسری جگہ پہنچا دیا، یا کسی کا مال چرا کر ان کو دے دیا۔ جو

لوگ خیانت کرتے ہیں یا بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان ایسے لوگوں کا مال بھی چرا کر ان کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام کرتا ہے۔

### جنوں سے خدمت لینے کا حکم:

یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا تھا اور انہیں ایسی سلطنت عطا کی تھی جو ان کے بعد کسی کے شایان شان نہیں۔ اب اگر کسی انسان کو کسی جن کی ماتحتی حاصل ہو تو وہ بطور تسخیر نہیں بلکہ جن کی رضامندی سے ہوگی۔ کیا جن کو ماتحت بنانا جائز ہے؟ ابن تیمیہؒ مجموع الفتاویٰ (ج ۱۱ ص ۳۰) میں رقمطراز ہیں:

”انسان کے لئے جن کی ماتحتی کی چند صورتیں ہیں، اگر انسان جن کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہو اور انسانوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا افضل ترین ولی ہے، وہ اس معاملے میں رسول اللہ کا خلیفہ و نائب ہے، اگر کوئی شخص جن کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اس کے لئے شرعی طور پر مباح ہوں تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مباح چیزوں میں کسی انسان کو استعمال کرتا ہو، مثلاً انہیں فرائض کی ادائیگی کا حکم دے، حرام چیزوں سے روکے، اور اپنی جائز خدمت لے، اس کا مقام بادشاہوں کا مقام ہوگا جو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اگر اس کے مقدر میں یہ ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو دوسرے ولیوں میں اس کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک حکمران نبی اور عام نبی کی ہوتی ہے جیسے حضرت سلیمان و یوسف کی حیثیت حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے مقابلے میں ہے۔

اگر کوئی شخص جن کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ممنوع ہوں، مثلاً شرک میں استعمال کرے یا کسی بے گناہ کے قتل میں یا لوگوں پر ظلم کرنے میں مثلاً کوئی بیماری لگادی، حافظہ سے علم بھلا دیا، یا کسی بدکاری کے معاملے میں استعمال کرے مثلاً بدکاری کرنے کے لئے کسی مرد یا عورت کو حاصل کر لیا وغیرہ وغیرہ..... تو یہ سب گناہ اور ظلم کے معاملے میں مدد لینے کے کام ہیں۔ پھر اگر وہ کفر کے معاملے جنوں سے مدد لیتا ہے تو کافر ہے۔ نافرمانی کے کام میں مدد لیتا ہے تو نافرمان، فاسق اور گنہگار ہے۔

اگر اس شخص کو شریعت کا پورا پورا علم نہ ہو اور وہ جنوں سے ایسی چیزوں میں مدد لے جن کو وہ کرامات سمجھتا ہو مثلاً حج کے معاملے میں مدد لے، یا جن اس کو ایسی جگہ اڑا کر لے جائیں جہاں بدعتی لوگوں کا سماع ہو رہا ہو، یا عرفات لے جائیں اور وہ خود شرعی حج نہ کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں، تو ایسا شخص فریب کاری میں مبتلا ہے، اور یہ جنات کی اس کے ساتھ فریب کاری ہے۔“

### روحوں کو حاضر کرنے کا ڈرامہ:

روحوں کو حاضر کرنے کا آج ہر طرف چرچا ہے۔ اس جھوٹ کی بہت سے ایسے لوگوں نے بھی تصدیق کی ہے جن کا شمار عقلمند لوگوں اور عالموں میں ہوتا ہے۔ روحوں کو حاضر کرنے کا نام نہاد عمل کسی ایک طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ طریقے تو خالص جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں، جن میں عیاری، ہوشیاری اور ماہرانہ فنکاری کا عمل دخل ہوتا ہے، کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جن میں جن اور شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین نے اپنی کتاب ”الروحیۃ الحدیثیۃ“ (جدید روحانیت) میں ایسے لوگوں کے فریب کا خوب پردہ چاک کیا ہے۔ یہ لوگ روحوں کو حاضر کرنے کا عمل ہلکی سرخ روشنی ہی میں کرتے ہیں جو اندھیرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، روحوں کا آنا، آواز سنائی دینا، اور جسموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ سب گہرے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ چھپے ہوئے چہرے کس جگہ بیٹھے ہیں اور آواز کہاں سے آرہی ہے۔ نہ وہ جگہ کی تمیز کر سکتا ہے کہ اس کی دیواریں، دروازے اور کھڑکیاں کس طرح کی ہیں۔

ڈاکٹر محمد نے ”حیمہ“ کے متعلق بھی بتایا ہے کہ یہ حاضرین سے الگ قریب ہی ایک کمرہ ہوتا ہے، یا جس کمرے میں حاضرین بیٹھے ہیں اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو دبیز پردے سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ یہ الگ جگہ ٹالٹ کے بیٹھنے کے لئے تیار کی جاتی ہے جس کے ہاتھوں نام نہاد روچیں جسمانی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ پردے سے ڈھکی اور اندھیرے میں چھپی ہوئی اس جگہ سے روچیں جسم کا روپ دکھا کر نکلتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہیں لوٹ جاتی ہیں، حاضرین میں سے کسی کو ان روحوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی۔

ڈاکٹر موصوف کہتے ہیں کہ ایسے تاریک ماحول میں ہوشیاری و مکاری کو ڈھالنے کے لئے روحانی حضرات کے پاس فنکارانہ سانچوں کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ فنکارانہ ہوشیاری سے لوگوں کو دھوکہ دینا ایک مشہور و معروف قدیم طریقہ ہے جس سے انسان نما شیطان اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے لوگوں کے پاس عزت و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مال پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ (۱۱/۴۵۸) میں اپنے زمانے کے ایک دفتر کے متعلق جس کو ”بطانہ حیہ“ کہا جاتا تھا، ذکر کیا ہے کہ ان کو غیب دانی اور کشف و کرامات کا دعویٰ تھا، ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ پوشیدہ مخلوق کو خود دیکھتے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ پھر علامہ نے ان کے دجل و فریب کو ظاہر کیا کہ وہ کسی گھر کے اندرونی حالات کو معلوم کرنے کے لئے کسی عورت کو بھیجتے، پھر جو باتیں ان کی معلوم ہوئیں گھر والوں کو بتا دیتے اور یہ کہتے کہ یہ راز کی باتیں خاص انہی کو معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک آدمی سے جس کو وہ حکومت کا لالچ دیتے تھے، وعدہ کیا کہ اسے پوشیدہ مخلوق دکھائی جائے گی، چنانچہ انہوں نے لمبی لمبی لکڑیاں تیار کیں اور ان پر چلنے کے لئے کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ وہ ایسی ایکٹنگ کریں جیسے کوئی شمشے کے گیند سے کھیل رہا ہو، ان لوگوں نے ”مزہ“ پہاڑ پر چلتے ہوئے ایسی ہی ایکٹنگ کی، وہ نادان آدمی دور سے دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ پہاڑ پر کچھ لوگ چل رہے ہیں وہ زمین سے بہت اونچائی پر تھے۔ اس طرح انہوں نے اس شخص سے خوب روپے ایشٹھے اور اس کو بعد میں ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہوئی۔

ان لوگوں نے ”قفجق“ نامی ایک آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہی فریب کیا کہ ایک شخص کو قبر میں بات کرنے کے لئے سلا دیا اور ”قفجق“ کو پٹی پڑھائی کہ مردہ بات کر رہا ہے پھر اس کو باب الصغیر کے قبرستان میں ایک آدمی کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ وہی شعرانی ہے جو لبان پہاڑ میں مدفون ہیں۔ ”قفجق“ کو اس کے قریب نہیں لے گئے بلکہ دور ہی رکھا تا کہ اس کے پاس اس کی ’برکت‘ پہنچتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ شعرانی صاحب نے تم سے کچھ روپے مانگے ہیں۔ ”قفجق“ نے سوچا کہ شیخ راز کی باتیں بتا سکتے تو انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو روپے مانگے ہیں، میرے

خزانے میں تو ہیں نہیں! آخروہ اس کے قریب گیا اور اس کے بال سے کھینچا تو اس کے ہاتھ میں کھال آگئی۔ دیکھا تو وہ بکری کی کھال تھی جو اس آدمی کو پہنادی گئی تھی!

ڈاکٹر محمد حسین نے بتایا کہ یہ کرائے کے ٹنو (جن کے بارے میں روحانی حضرات کہتے ہیں کہ ان میں کٹھ پتلی بننے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے انہی کے ذریعے یہ تعلق قائم ہوتا ہے) اکثر دھوکہ باز، عیار اور فریب کار ہوتے ہیں ان کو دین و اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بلکہ خود روحانی حضرات کے یہاں ان ٹنوں کے لئے دین و اخلاق کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر موصوف نے ایک واقعہ ذکر کیا جو کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر پیش آیا تھا، اس واقعہ کی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ثالث (مائلٹ ر کرایہ کاسٹو) جھوٹا اور دھوکہ باز تھا۔

ڈاکٹر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ روحوں کو حاضر کرتے ہیں ان کی کچھ مشاہدین کے ساتھ کیسی ملی بھگت ہوتی ہے اور جن لوگوں کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت دی جاتی ہے ان کے انتخاب میں کس احتیاط سے کام لیا جاتا ہے اور اگر مشاہدین میں کچھ ہوشیار اور بیدار مغز لوگ موجود ہوں تو ناکامی کی توجیہ کس طرح کی جاتی ہے۔

جن اور شیطانوں کا استعمال: ڈاکٹر محمد حسین نے پہلے طریقے کو خوب اچھی طرح بے نقاب کیا جس کے بارے میں روحانی حضرات کہتے ہیں کہ وہ اسی سے روحوں کو حاضر کرتے ہیں یعنی کذب و فریب، نظر بندی، اور ہاتھ کی صفائی کا طریقہ۔ دوسرے طریقے یعنی جن اور شیطانوں کو استعمال کرنے کے سلسلے میں صرف اشارہ سے کام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روحوں کو حاضر کرنے کے لئے جو دعویٰ کئے جاتے ہیں وہ اکثر اسی قبیل سے ہوتے ہیں۔

### مردہ روحوں کی حاضری؛ ایک قدیم فراڈ:

اس بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نعرہ نیا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے، گزشتہ صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ لوگ جنوں سے کس طرح تعلقات قائم کرتے تھے، بلکہ معتبر علماء کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مردوں کی روحوں کی رو میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان میں (یعنی شیطانی کام کرنے والے



کافروں، مشرکوں اور جاادوگروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرنے والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ آئے گا، ان سے باتیں کرے گا، اپنا قرض اور امانت واپس کرے گا، اور انہیں کچھ وصیتیں کرے گا حالانکہ ان کے پاس وہ شکل آتی ہے جو ابھی زندہ ہے یعنی اس کا ہمزاد شیطان اس کی شکل میں آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی مرنے والے کی روح ہے۔“ (جامع الرسائل ص ۱۹۳، ۱۹۵)

ایک معاصر کا تجربہ: اس تجربہ کا تعلق ایک اہل قلم احمد عزیز الدین البیانونی سے ہے۔ موصوف نے اس تجربہ کو اپنی کتاب ”الایمان بالملائکۃ“ (فرشتوں پر ایمان) کے اندر تحریر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے ہو بہو نقل کر دوں، موصوف کہتے ہیں:

”روحوں کو حاضر کرنے کا نام نہاد نظریہ مشرق و مغرب کے لوگوں کے دل و دماغ کی الجھن بن گیا ہے، عربی اور دوسری مختلف زبانوں میں اس پر مضامین شائع ہوئے، کتابیں لکھی گئیں۔ محققین نے تحقیق کی، تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا، اس کے بعد جو لوگ عقلمند تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ سراسر جھوٹ اور بکواس ہے، اور اس سے کفر و شرک کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ روحوں کو حاضر کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے بالکل جھوٹ، دھوکہ اور فریب ہے، نام نہاد رو جس حقیقت میں شیاطین ہیں جو انسان کے ساتھ کھیلتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ مردے کی طرح روح کو حاضر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، رو جس تن سے جدا ہونے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ یا تو نعمتوں میں ہوتی ہیں یا عذاب میں، انہیں ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جن کا روحوں کو حاضر کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں۔ ان روحوں کے حاضر کرنے کے دعوے داروں نے مجھے بلایا تھا، میں نے خود اس کا طویل تجربہ کیا تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ سب شیطانی چکر ہے، شیطان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور دھوکہ دینا ہے۔“

تجربہ کا آغاز تقریباً دس سال سے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، جس کا کہنا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کے لئے نیک کاموں میں جنوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ کام انسانوں ہی میں سے کسی ایک شخص کے ذریعہ کرتا ہے جس کو ’مالٹ‘ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہنچنے کے لئے اس نے ایک زمانہ تک لمبے لمبے

اورادو وظائف کیے ہیں، یہ اوراد و وظائف ایک شخص نے بتائے تھے جو بزعم خویش اس فن کا عالم تھا۔ ایک دن ثالث میرے پاس کسی جن کی دعوت لے کر آیا کہ مجھے ایک اہم گفتگو کرنی ہے جس میں میرا بہت نام ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے میں مقررہ وقت پر خوشی خوشی نکلا کہ چلو آج اس تجربے میں کوئی نئی بات معلوم ہوگی۔

دھوکہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے میرے ساتھ جو ہتھکنڈا استعمال کیا گیا، وہ یہ تھا کہ روح کو حاضر کرنے کا طریقہ ذکر و استغفار اور جہلیل و کبیر ہے۔ اس سے فوری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکیزہ، سچی اور آسمانی روحوں سے ہم کلام ہوگا۔ میں ثالث کے گھر پہنچا، ہم دونوں گھر کے ایک خالی کمرے میں جمع ہوئے، وہ ایک بستر پر بیٹھ گیا۔ ہم نے (اسی کے کہنے کے مطابق) جہلیل و استغفار اور ذکر و اذکار شروع کر دیا، اس پر غنودگی طاری ہوئی، میں نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اس پر چادر ڈھک دی، اتنے میں ایک ہلکی آواز سنائی دی۔ آواز والے نے مجھے سلام کیا، اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، پھر اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ فرشتوں میں ہے نہ جنوں میں، وہ کوئی دوسری قسم کی مخلوق ہے جسے اللہ نے ”کن“ (ہوجا) کہہ کر پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود اس کا کہنا تھا کہ جن اسی کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام ملنے میں اس کے اور اللہ کے درمیان صرف چار واسطے ہیں پانچواں واسطہ جبریل ہیں۔

وہ میری تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ لوگ اب انسانوں سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیں گے اور میری ملاقات پر اکتفا کریں گے، کیونکہ میں ان کے بقول اس زمانہ میں صاحب امتیاز اور اللہ کی عنایات کا مرکز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے اس کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے مجھ سے خوب دل فریب وعدے کئے جو بلا کے تعجب خیز بھی تھے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے اس نئے تجربے اور پرفریب دعوت کو مان لیا اور اللہ سے درخواست کی کہ مجھے لغزش پاسے محفوظ رکھے، واضح حق کی رہنمائی عطا کرے، علم کی روشنی میرے ساتھ ہو، استقامت میرا راستہ ہو، والحمد للہ!

جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے دوسرے وقت دوسری ملاقات کی دعوت دی پھر اسی نے ثالث کو نیند سے بیدار کرنے کے لئے ایک مخصوص دعائی۔ دعا پڑھی گئی،

ثالث بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا گویا وہ گہری نیند سے بیدار ہوا ہوا اور اسے کسی بات کا علم نہ ہو۔ میں بھی مقررہ وقت پر واپس ہو گیا، اس کے بعد مدت دراز تک ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہر ملاقات میں نت نئے وعدے ہوتے اور بتایا جاتا کہ تاہناک مستقبل میرا منتظر ہے اور امت کو میرے ہاتھوں زبردست فائدہ ہونے والا ہے۔

بات آگے بڑھتی ہے: پھر بات آگے بڑھی، بہت سے روٹیں مجھ سے ملاقات کرنے لگیں۔ ہر ملاقات میں تمہیدی طور پر ذکر و استغفار ہوتا اور کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی میں ثالث کے ساتھ کھانے پر ہوتا، یا کبھی چائے کا دور چلتا، اتنے میں اسی کو وہی پہلی سی نیند کی چھپکی آتی، سر آگے کو جھکنے لگتا، ٹھوڑی سینے سے لگ جاتی، پھر ملاقاتی جو خود کو فرشتہ یا جن یا صحابی یا ولی کہتا، مجھ سے ایسے ڈھنگ سے بات کرتا جس پر احترام و عظمت کی گہری چھاپ ہوتی، میری زیارت کو بابرکت بتایا جاتا، اور درخشاں مستقبل کی خوشخبری دی جاتی، پھر وہ لوٹ جاتا، اس کے بعد کوئی دوسرا آتا، پھر کوئی اور۔

زائرین کون تھے؟ ان کے بقول مجھ سے ملاقات کرنے والوں میں کچھ فرشتے تھے، کچھ جنات۔ صحابہ میں ابو ہریرہؓ، ولیوں میں ابوالحسن الشاذلی اور دوسرے اہل علم و فضل میں احمد الترمینیؒ تھے۔ کچھ اصحاب علم و فضل میرے ہم عصروں میں تھے جو میری زندگی میں وفات پا چکے تھے انہی میں میرے والد ماجدؒ بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خوشخبری دی کہ ایک متعین وقت پر مجھ سے میرے والد ملاقات کریں گے، میں کمال شوق سے وقت کا انتظار کرنے لگا، جب انتظار کی گھڑی آئی تو انہوں نے مجھے با آواز بلند سورہ واقعہ پڑھنے کو کہا، میں نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، جب تلاوت سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا: چند لمحوں کے بعد تمہارے والد حاضر ہوں گے، وہ جو کہیں گے غور سے سننا، ان سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا!!

اب میں سمجھا: چند منٹ بعد ایک شخص ظاہر ہوا، علیک سلیک کے بعد اس نے میری ملاقات نیز ان رحوں کے ساتھ میرے تعلق پر خوشی کا اظہار کیا اور وصیت کی کہ میں ثالث اور اس کے بچوں کا خیال رکھوں اور اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کروں کیونکہ اس کی آمدنی کا یہی ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔

درود ابراہیمی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کی، مجھے معلوم ہے کہ والد مرحوم کو نبی پر درود بالخصوص درود ابراہیمی بھیجنے کا شوق تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بات کرنے والے کالب و لہجہ والد کے لب و لہجہ سے بڑی حد تک ملتا جلتا تھا۔ پھر اس نے سلام کیا اور واپس ہو گیا۔ میں دل میں سوچنے لگا: آخر انہوں نے یہ کیوں کہا ہوگا کہ میں آنے والے سے کوئی بات نہ پوچھوں؟

اس میں ضرور کوئی راز ہے!..... کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے! اس وقت میری سمجھ میں بات آئی کہ وہ میرے والد نہیں تھے بلکہ ان کا ہمزا جن تھا جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، اور اب ان کی آواز اور دوسری خصوصیات کی نقالی کر کے میرے پاس آیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس سے کچھ نہ پوچھنے کی تاکید اس لئے کی تھی کہ ہمزا جن میرے والد کی زندگی کے متعلق خواہ کتنا ہی علم رکھتا ہو پھر بھی وہ ان جزئیات کو یاد نہیں رکھ سکتا تھا جو ایک بیٹا اپنے باپ کے متعلق جانتا ہے، اس بنا پر انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اس سے کوئی ایسی بات نہ پوچھ بیٹھوں جس کا اس کے پاس جواب نہ ہو اور بھانڈا پھوٹ جائے!

پھر دوسروں سے ملاقات کے وقت میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ وہ لوگ واپسی کے وقت ہی اپنا نام بتاتے تھے، ایک شخص کہتا: میں فلاں ہوں، اور سلام کر کے فوراً غائب ہو جاتا۔ اس میں بھی وہی راز ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ: اگر کوئی پہلے ہی اپنا تعارف کر دیتا اور وہ کوئی بڑا عالم ہوتا اور میں اس سے کسی علمی مسئلہ میں بحث کرتا تو وہ جواب دینے سے قاصر رہتا اور ساری حقیقت بے نقاب ہو جاتی!

ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا اور بحث کرنے لگا کہ عورت کا چہرہ کھولنا جائز ہے، چہرے کا پردہ ضروری نہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا، تو اس نے مجھے آگے سے ایسا جواب دیا جس میں ذرا بھی علم کی بو باس نہ تھی، ہم دونوں میں ٹھن گئی۔ میں نے کہا: تمہارے پاس ان فقہاء کے اقوال کا کیا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ میں داخل ہے، یافتہ کے اندیشہ سے اس کو چھپانا ضروری ہے؟ بہر حال اس بحث سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، پھر اس نے بتایا کہ وہ شیخ احمد الترمذی ہے اور غائب ہو گیا۔

میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اس لئے کہ شیخ احمد الترمذی شافعی مسلک کے بلند پایہ فقیہ تھے اور شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت سر اپا پردہ ہے خواہ وہ بوڑھی خراٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حقیقت میں شیخ مذکور ہی تھے اور ان کو عالم برزخ میں کوئی نیا علمی انکشاف ہوا تھا تو ضرور بتاتے اور اس کی دلیل بھی سمجھاتے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی اور یہ شیطان تھا جس کا مقصد جھوٹ، دھوکہ اور گمراہ کرنا تھا، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق و ہدایت کے راستہ پر ثابت قدم رکھا۔

حقیقت کا انکشاف: بار بار کے تجربہ سے آہستہ آہستہ حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھتا گیا یہاں تک کہ مجھے کامل یقین ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ، بہتان اور دجل و فریب ہے اس کی بنیاد دینداری اور تقویٰ شعاری تھیں۔ جس حالت کا یہ لوگ بہت خیال رکھتے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی دوسروں کو تاکید کرتے ہیں، وہ پکا بے نمازی ہوتا ہے، اسے نماز کی تاکید نہیں کی جاتی۔ وہ داڑھی بھی صاف کرتا ہے اور اسے داڑھی رکھنے کے لئے بھی نہیں کہا جاتا۔ وہ غلط اور پرفریب وعدے کر کے لوگوں کا مال بھی ہضم کرتا ہے اس کی آمدنی کا یہی ایک خمیشت ذریعہ ہے۔

ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ اس ثالث کے ساتھ میرے مراسم ہیں تو وہ شکایت لے کر میرے پاس پہنچا کہ ثالث ہوا دے کر اس سے تین سو لیرہ (ملک شام کا سکہ) اینٹھ لئے ہیں وہ غریب ہے اسے ان روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے ثالث سے کہا کہ وہ اس کے روپے واپس کر دے، اس نے یہ سوچ کر واپس کر دیا تاکہ اس کے اور اس کے شیطانوں کے ساتھ میرا تعلق برقرار ہے۔ ثالث اور اس کی گھر گر ہستی کا تمام تر دار و مدار ہر معاملہ میں جھوٹ بولنے پر ہے۔

خاتمہ: جب مجھے ان روجوں کی حقیقت معلوم ہو گئی تو انہوں نے میرے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اختیار کر لیا لیکن محمد اللہ اس سے میرے دل کی چولیس نہ ہل سکیں۔ اس طویل مدت میں روجوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی میں اسے قلمبند کرتا رہا یہاں تک کہ دو بڑی کاپیاں بھر گئیں۔ جب باطل پوری طرح سامنے آ گیا اور اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ رہی تو میں نے ان سے تعلقات ختم کر دیئے، ان کو جو کہنا تھا کہہ دیا اور وہ کاپیاں بھی

نذر آتش کر دیں، جو جھوٹ کا پلندہ تھیں۔ یہ روحمیں جو خود کو صحابہ، اولیاء اور صالحین کی روحمیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، سب شیطان ہیں، کسی سمجھ دار مومن کو ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے! روحوں کو حاضر کرنے کے یہ تمام طریقے جھوٹ اور باطل ہیں خواہ وہ ثالث کا طریقہ ہو جس کا میں نے تذکرہ اور تجربہ کیا، یا نیبل اور کپ والا طریقہ ہو جس کا کچھ لوگوں نے تجربہ کیا اور مجھے بھی بتایا ہے اور وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں جس تک میں پہنچا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر کتابیں پڑھیں تو دیکھا کہ سمجھ دار تجربہ کرنے والے ٹھیک اسی نتیجہ تک پہنچے ہیں جس تک میں پہنچا تھا، انہوں نے ان روحوں کو انسانوں کے ہمزا جن کہا ہے، بھگت، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس چیز کی رہنمائی کر دی۔ اور مذکورہ بالا سطور تحریر کر کے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ واللہ الہادی الی سوا السبیل!

### روحوں کے حاضر کرنے کا خطرناک پروپیگنڈہ:

یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ روحوں کو حاضر کرنا ممکن ہے۔ اس کو انسان نما شیطانوں نے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے اپنا حربہ بنا لیا ہے۔ حاضر ہونے والی روحمیں جو حقیقت میں شیطان ہوتے ہیں، ایسی باتیں کہتی ہیں جن سے دین و مذہب کے پر نچے اڑ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ روحمیں ایسے تصورات اور ایسی نئی روایتیں قائم کرنا چاہتی ہیں جو حق کے بالکل مخالف ہوں۔ اسی قسم کے ایک جلسہ میں روح (شیطان) نے ثالث کی زبان سے کہا کہ جبریل اس جلسہ میں شریک تھے چونکہ حاضرین جبریل کو نہیں جانتے تھے اس لئے روح نے تعارف کرایا اور کہا: ”کیا تم لوگ جبریل کو نہیں جانتے ہو جو محمد پر قرآن لے کر نازل ہوئے تھے؟ وہ اس جلسہ میں برکت کی دعا کرنے آئے تھے!“

ڈاکٹر محمد حسین نے ماہنامہ ”عالم الروح“ (روحانی دنیا) کے ایک مضمون بعنوان ”ہوايٹ ہاک سے عظیم روح کی گفتگو“ سے ایک اقتباس نقل کیا ہے جو درج ذیل ہے:

”ہمیں اس تحریک اور اس نئے مذہب کے لئے متحد ہونا چاہئے، ہمیں آپس میں میل محبت

ہونی چاہیے، ہمارے اندر قوت برداشت اور اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ میرا (یعنی بات کرنے والی روح جو کہ شیطان ہے اس کا) مشن یہ ہے کہ نادار کی دستگیری کی جائے، انسان کو اللہ کے تسلط سے آزاد کرنے میں ہماری مدد کی جائے (شیطان نے صحیح کہا کیونکہ اس کا یہی مشن ہے یعنی انسان سے اللہ کا انکار کروانا!) انسان خدا ہے جو عناصر اربعہ کے لباس میں جلوہ گر ہے (انسان کو گمراہ کرنے کے لئے شیطان اسی طرح بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا اور دروغ گوئی سے کام لیتا ہے) وہ اس وقت اپنی قوت و صلاحیت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے اپنے ملکوتی اور خدائی حصہ کا احساس نہ ہو، پوری دنیا کے لئے ایک ہمہ گیر نئے مذہب کی بنیاد رکھنے کی روحانیت کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ صلاحیت ہے۔“

ڈاکٹر محمد نے مذکورہ ماہنامہ سے ایک تنظیم کا تعارف بھی نقل کیا ہے جو اسی مقصد کے لئے قائم کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ”یہ تنظیم پوری انسانیت کے لئے ہوگی۔ اسی کے ذریعہ روحانی دنیا کے باشندے ہمیں زندگی کا نیا طریقہ بتائیں گے اور اللہ اور اس کی مشیت کے متعلق ایک نیا تصور دیں گے۔ انہی کے ذریعہ ہمیں روحانی سکون اور دل کا سرور نصیب ہوگا، یہی لوگ قوم و فرد اور عقیدہ و مذہب کی دیواریں منہدم کریں گے، بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص اس تنظیم کا رکن بن سکتا ہے۔“

روحیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول کہتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں کہ محمد فرید وجدی نے ان روحوں کا قول نقل کیا ہے کہ: ہمیں اسی طرح اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جس طرح ہم سے پہلے نبیوں کو بھیجا گیا تھا، البتہ ہماری تعلیمات ان کی تعلیمات سے کہیں زیادہ بلند ہیں، ہمارا خدا ان کا خدا ہے پھر بھی ہمارا خدا ان کے خدا سے غالب تر ہے، ہمارے خدا میں انسانی صفات کم ہیں، خدا کی بیشتر صفات کسی مذہبی عقیدہ کی پابندی نہیں، نہ ان کو بغیر غور و فکر کے قبول کیا جاسکتا ہے، ہماری تعلیمات کا درامد اسٹل پر نہیں ہے۔“

روحوں کا خیال ہے کہ انبیاء و رسولوں کی حیثیت ایک اعلیٰ درجہ کے ثالث سے زیادہ نہیں، ان کے ہاتھوں جو معجزات رونما ہوئے وہ روحانی مظاہر کے سوا کچھ نہیں، بالکل

ویسے ہی مظاہر جو روح کو حاضر کرنے والے کمرہ میں رونما ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ہاتھوں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے وہ دوبارہ ان کو دکھا سکتے ہیں۔ بعض اخبارات میں زبردست پروپیگنڈہ مہم چلائی گئی اور کہا گیا کہ امریکہ کے اندر روحوں کو حاضر کرنے والا ایک شخص حضرت مسیح کے معجزات کی طرح معجزے دکھاتا ہے، وہ اندھے کو بینا، گونگے کو گویا اور مفلوج کو متحرک بنا دیتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ نام نہاد روحانی طبیب دس سال کا بچہ ہے جس کا نام ”میشیل“ بتایا جاتا ہے۔ جب مریض اس کے پاس آتا ہے تو وہ مریض کے بدن پر اپنی انگلیاں رکھ کر کچھ منتر منہ ہی میں بد داتا ہے جس کے نتیجے میں معجزہ کا وقوع ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بچہ کو روحانی صلاحیت اپنے باپ سے وراثت میں ملی ہے، وہ اس طرح کے کام کرنے پر کوئی بھی اجرت نہیں لیتا۔ (ملاحظہ ہو، ضمیمہ ماہنامہ ”القبس“ کویت۔ ۱۹۷۷ء/۱۹۷۸ء)

اس بچہ کو روحانی صلاحیت اپنے باپ سے وراثت پر ملنے پر ایک قصہ یاد آیا جو فلسطین کے کئی علاقے میں بیان کیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک نیک و صالح آدمی بڑا تعجب خیز کام کرتا تھا، ہوتا یوں کہ جس زمانہ میں ہوائی جہاز اور موٹروں کا چلن نہیں تھا، وہ عرفہ کی رات حج کے لئے نکلتا اور عرفہ کے دن تمام حجاج کے ساتھ موجود ہوتا، انہیں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے خطوط پہنچا دیتا اور ان کی طرف سے جو اپنی خطوط لے کر دوسری رات گھر کی طرف واپس ہو جاتا۔ بہت سے لوگ اس شخص کی نیکی کے قائل تھے حالانکہ وہ حج کے تمام مناسک بھی ادا نہیں کرتا تھا، نہ منی میں مقررہ مدت تک ٹھہرتا، نہ رمی جمرہ کرتا۔ خدا کی مشیت کہ اس کا جھوٹ کھل گیا اور ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ہر سال عرفہ کی رات کو اس کے پاس ایک اونٹ آئے گا اور اسے عرفات لے جائے گا۔ جب اونٹ آیا اور وہ لڑکا اس پر سوار ہوا تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد اونٹ رک گیا اور لڑکے سے باتیں کرنے لگا اس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے۔ اس کا باپ اس کی عبادت کرتا اور اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اس کے بدلہ میں وہ اس کے باپ کی یہ اور اس طرح کی دوسری خدنا بتا جاتا تھا۔ جب لڑکے نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس



سے اللہ کی پناہ مانگی، تو شیطان اس کو چھوڑ کر صحرا میں غائب ہو گیا۔ اللہ نے اس کے مقدر میں واپسی لکھی تھی اس نے اپنے کافر باپ کی حقیقت لوگوں کو بتا دی۔ غلامہ البیانونی نے اپنی کتاب ”الملائکة“ (فرشتے) میں مختصر طور پر اس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

**کیا روحوں کو حاضر کرنا ممکن ہے؟ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟**

ماہنامہ ”سائنٹفک امریکن“ نے روحانی مظاہر کی صداقت کو ثابت کرنے والوں کے لئے زبردست انعام رکھا ہے۔ یہ انعام ابھی تک رکھا ہوا ہے اسے کوئی بھی نہیں جیت سکا۔ حالانکہ امریکہ میں روحانیت کے علمبرداروں کا کافی چمچا اور اثر و رسوخ ہے اس انعام کے ساتھ امریکی جادوگر ”ڈینیجر“ کی طرف سے بھی اسی مقصد کے لئے دوسرا انعام رکھا گیا ہے لیکن اس کو بھی کوئی نہیں جیت سکا!!

مردہ روح کو حاضر کرنے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ اس سلسلہ میں وارد شدہ نصوص پر غور و فکر کرنے سے ایک محقق کو پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روحوں کا واپس دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ روح عالم غیب کی چیز ہے جس کا ادراک ممکن نہیں۔ اِشَاد بَارِی تَعَالٰی هِیَ:

﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

”اور روح کی بابت تم سے سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم ملا ہے (یعنی تم اس کی کنہ و حقیقت سے عاجز ہو)“ [بنی اسرائیل: ۸۵]

اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہی انسان کی روح کو قبض کرتا ہے اور مرنے کے

بعد روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا

الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

”اللہ ان جانداروں کی موت کے وقت ان کی ارواح قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کی آئینہ کے وقت ان کے نفسوں پر قبضہ کرتا ہے جس کی موت کا وقت آچکا ہو اس کو روک لیتا ہے اور دوسرے کو اس کی موت کے وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں

ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کیا کرتے ہیں۔“ [الزمر: ۴۲]

اللہ تعالیٰ نے ان نفوس پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اگر وہ بد بخت کافر ہو تو فرشتے عذاب دیتے ہیں، اور اگر نیک صالح ہو تو انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔ موت کافر فرشتہ روجوں کو کس طرح قبضہ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یہ سب نبی اکرم ﷺ اپنی امت کو بتا چکے ہیں۔ اور احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

جب روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس روک لی گئی ہوں اور ان کی نگرانی کے لئے چست طاقتور فرشتے مقرر ہوں تو وہ وہاں سے بھاگ کر ان نام نہاد روحانی عاملوں کے پاس کیسے آسکتی ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوں۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کسی نیک بندے، نبی یا شہید کی روح کو حاضر کیا ہے۔ بھلا شہداء کرام اپنے سدا بہار باغوں کو چھوڑ کر ان کے تنگ و تاریک کمروں میں کیوں آسکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾  
 ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ (دراصل) زندہ

ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔“ [آل عمران: ۱۶۹]

نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”ان شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہیں، وہ جنت کے پھل اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں اور رحمن کے عرش کے چھتوں میں لٹکے قدیلوں میں آکر پناہ لیتی ہیں۔“

قرآن و سنت کے ان صریح دلائل کے برعکس آج کے نام نہاد عامل، اور شعبہ بازو جال ان شہیدوں اور صالحین کی روجوں کو حاضر کرنے دعویٰ آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا إِنَّا أَكَلْنَا مِنْهُ﴾ [الکہف: ۵] ”بہت ہی بڑا بول ان کے منہ سے نکلتا ہے (جو سراسر جھوٹ ہے اور) یہ محض جھوٹ ہی کہتے ہیں۔“

ایک شبہ اور اس کا جواب:

لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس بات کی کیا توجیہ کی جائے گی کہ روحیں اس شخص کے اخلاق و اعمال کو بھی جانتی ہیں جس کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی

روح تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو روح کہتا ہے وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان شاید وہی ہمزاد ہو جو انسان پر مقرر کیا گیا ہے، جن نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان پر ایک شیطان مقرر کیا گیا ان کا ذکر پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والا ہمزاد انسان کے بہت سے اخلاق، صفات اور عادات سے واقف ہو جاتا ہے اور اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جانتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو آسانی سے سب بتا دیتا ہے کیونکہ اسے یہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رو میں جو علمی جوابات دیتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ شیطانوں اور جنوں کے پاس اتنی علمی لیاقت ہوا کرتی ہے کہ وہ سوال جواب کر سکیں۔ لیکن شیطانوں کے جوابات ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی تہ میں عظیم گمراہی چھپی ہوتی ہے۔ وہ صرف ہمارا اعتماد حاصل کرنے تک صحیح جواب دیتے ہیں پھر ہمیں ایسے خطرناک گمراہ کن رخ پر ڈال دیتے ہیں جس میں ہماری دنیا و آخرت کی تباہی ہوتی ہے۔

### شیطانوں کی اپنے پرستاروں سے سبک دوشی:

یہ لوگ جنہیں ”صاحب روحانیت“ کہا جاتا ہے اور جو روحوں کو حاضر کرنے اور ان کے ذریعہ علاج معالجہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ رو میں شیاطین کے سوا کچھ نہیں، شیاطین جب چاہیں ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ماہنامہ ”القمس“ کویت نے اپنے ضمیمہ مجریہ ۱۲/۶/۸۷ء میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: ”ان دنوں پورے برطانیہ میں روحانی عالم ”بیسر گھو ڈوین“ موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ غیر معمولی روحانی صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ اپنی اس صلاحیت سے لاعلاج بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا، گم شدہ چیزوں کو بتا دیتا، اور انسان کی خدمت کے لئے روحوں کو مسخر کر دیتا تھا۔

”بیسر گھو ڈوین“ میں ایک منفرد قسم کی صلاحیت تھی جس کے ذریعے وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہوں میں موجود ہو جاتا تھا، مثلاً اس کے ساتھی اس کو لندن میں

دیکھتے، اسی گھڑی دوسرے لوگ اس کو ”لیور پول“ میں پاتے اور تیسرے ”مانچسٹر“ میں، جبکہ چوتھا فریق کہتا کہ وہ نہ یہاں تھا نہ وہاں بلکہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی اس کے مختلف ایٹھری جسم ایک جگہ جمع ہو جاتے مثلاً اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور اچانک اس کی دوسری شخصیت نمودار ہوتی اور دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جاتی، اس کے بعد اس کی تیسری اور چوتھی اور پانچویں شخصیت آتی، اس طرح بیشتر گھو ڈوین پانچ شخصیتوں سے عبارت ہوتا۔ یہ شخصیتیں حاضرین کے ساتھ بیٹھتیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتیں یا آپس ہی میں ہم کلام ہوتیں اور تمام حاضرین حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے۔ لیکن ”بیشر گھو ڈوین“ کے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ اس نے اچانک اپنی صلاحیت کم کر دی اور ایک عام انسان میں تبدیل ہو گیا، اب اس میں نہ مریضوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے نہ گم شدہ چیزوں کے بتانے کی، نہ مستقبل کے متعلق پیش گوئی کی اور نہ لوگوں کی خدمت کے لئے روحوں کو مسخر کرنے کی۔

”بیشر گھو ڈوین“ کا المیہ گزشتہ سال (یعنی ۱۹۷۷ء میں) پیش آیا جبکہ اس نے مادی مفاد کے حصول کے لئے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کی..... اب وہ ماضی قریب کو یاد کر کے کہتا ہے: میرے ساتھ جو ہوا، شان گمان میں نہ تھا، روحوں نے خفا ہو کر مجھ سے اپنی برکتیں چھین لیں۔

### قصہ کی ابتداء:

قصہ یہ ہے کہ گوڈوین نے ۱۹۷۷ء برطانیہ کے طول و عرض میں روحانی علاج کے مراکز قائم کرنا چاہے اور برطانیہ کے ہر بڑے شہر میں ایک سینٹر کھولنے کی تجویز پیش کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے شام نامہ ”بوغاوت“ میں اعلان شائع کیا کہ مستقل یا غیر مستقل طور پر روحانی تربیت حاصل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس منصوبہ سے ہفتہ میں ۴۰-۵۰ (پاؤنڈ کرنسی) کی آمدنی تھی۔ اس اعلان کے شائع ہونے کے بعد بیٹر گوڈوین کے پاس درخواستوں کی باڑھ آگئی جن لوگوں کی درخواستیں منظور ہوئیں ان میں انتیس سالہ قلم کار ”روبین لاسی“ سینٹھ سالہ خاتون ”جین پارٹلیٹ“ اور ایک تیس

سالہ جوان ”ارثر جفری“ شامل تھے۔ لیکن بیٹر گوڈوین نے جونہی انٹرویو لینے شروع کئے اس کی پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روین لاسی کہتا ہے: ”جب ہم انٹرویو کے لئے حاضر ہوئے تو میں غیر متوقع طور پر دیکھتا ہوں کہ بیٹر گوڈوین غائب ہے، انٹرویو لینے والی ایک پچاس سالہ خاتون ہے جس کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جوان اور ایک نوخیز خوب روڑ کی موجود ہے..... ہمیں سوالات کی کاپیاں تقسیم کی گئیں اور ان کے جوابات طلب کئے گئے۔ کچھ سوالات اس طرح تھے: کیا آپ نے اپنی زندگی میں روحوں کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا آپ روحوں کے نتائج پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ منشیات کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ کو عصابی امراض کے ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا؟ پچاس سالہ خاتون نے ہم سے کہا کہ بیٹر گوڈوین برطانیہ کے ہر شہر میں ایک روحانی مرکز قائم کرے گا اور ہمیں روحانی علاج کی ایسی تربیت دے گا کہ ہم ان مراکز میں کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے پاس گا ہک بھیجے گا ہم ایک نشست کے پانچ پونڈ لیں گے اور ہفتہ میں تقریباً چالیس آدمیوں کا علاج کریں گے۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی تھی کہ بیٹر گوڈوین پانچ ہزار پونڈ کا نصف اول اپنے لئے رکھ لے گا اور بقیہ نصف ہمارا ہوگا اس کی وجہ سے ہم میں سے اکثر و بیشتر کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کے خلاف درخواست دہندگان کی طرف سے احتجاجی صدائیں بلند ہونے لگیں ہم میں سے اکثر لوگ درخواستوں کی منظوری کے بغیر ہی کمرہ سے باہر آ گئے۔

چشم دید گواہوں کی زبانی: اس کے باوجود کچھ لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا اور انہیں بیٹر گوڈوین سے دوسرے کمرہ میں ملاقات کی اجازت دی گئی۔ پہلے شخص کا انٹرویو بیس منٹ تک ہوتا رہا پھر اس وقت میں کمی آتی گئی۔ جب آخری شخص کی باری آئی تو پانچ منٹ میں انٹرویو ہو گیا۔ بالآخر چند اشخاص کو اس حیثیت سے منتخب کر لیا گیا کہ وہ بیٹر گوڈوین سے روحانی تربیت حاصل کریں۔ جن لوگوں کا انتخاب ہوا ان میں ریٹائرڈ انجینئر خاتون ”جین پارٹلیٹ“ اور اس کا شوہر ”ارثر پارٹلیٹ“ بھی تھے۔

بیٹر گوڈوین کی سکھائی ہوئی کسی بھی چیز کا میں نے استیعاب نہیں کیا، وہ ٹریننگ کے دوران ہمیشہ پریشان خاطر نظر آتا تھا۔ آخری آیام میں وہ اپنے لکچر ٹیپ ریکارڈ

میں ٹیپ کرنے لگا تھا جن میں وہ اس بات پر بحث کرتا کہ زندگی میں انسان کے کتنے آفاق ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ہمیں ہمشکل مٹی کے مجسمے بنانے کا حکم دیا اور ان پر پڑھنے کے لئے کچھ منتر بھی سکھائے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا۔ بیٹر گوڈوین نے ہمیں کچھ نوٹس (ملاحظات) بھی دیئے تھے جو ہماری سمجھ میں نہ آسکے۔“

ارتز جفری اور اس کی بیوی انجیلا بھی ان لوگوں میں تھے جن کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ انجیلا کہتی ہے کہ ”شروع میں ہمیں محسوس ہوا کہ اسباق اور لکچرس علمی ماحول میں رچے بے ہوئے ہیں لیکن بیٹر گوڈوین ہمیشہ پریشان سا رہتا تھا، آہستہ آہستہ اس کا اثر بھی ختم ہونے لگا، چند دنوں بعد وہ ہماری طرح عام انسان ہو گیا جس میں کوئی غیر معمولی قوت نہیں رہ گئی تھی، ہم نے یہ چیز اس لئے محسوس کی کیونکہ اب وہ ہمارے سامنے اپنے کرشمے اور کرات میں نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ اپنے لکچرس ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر دیتا اور ہم اس کو کیسٹ میں سنتے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ اسی لئے ہم تمام لوگوں نے اسکے لکچروں میں حاضر ہونا ترک کر دیا اور وہ اخراجات بھی ادا کرنا بند کر دیے جو نی لیکچر دس پاؤنڈ کے اوسط سے ہم ادا کرتے تھے۔“

بیٹر گوڈوین..... جس پر اب روجوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے باز کے شہر ہاسکھوک میں واقع اپنے آفس سے کہتا ہے: ”میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں اپنے شاگردوں کی روحانی صلاحیتوں کی نشوونما کروں پھر انہیں بطور ثبوت ایک سند بھی دوں تاکہ وہ اپنے کام کی مشق اور پریکٹس کرتے رہیں۔ خود فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور مجھے بھی اس سے فائدہ پہنچے، باوجودیکہ مجھے متعدد روحانی خطوط موصول ہوئے کہ میں مادی منفعت کی خاطر اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا استحصال نہ کروں مگر میں نے نہیں سنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری صلاحیت ختم ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا میں اب تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔“

اس واقعہ پر ہمارا تبصرہ:

۱۔ اس شخص نے روجوں کو حاضر کرنے کا جو دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ شیطان کو حاضر کرتا تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے مریدوں کو مجسمے بنانے اور مخصوص

منتر پڑھنے کا حکم دیا تھا، ایسی چیزیں شیطان پسند کرتا ہے، رحمان کو اس سے نفرت ہے۔  
 ۲۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ روحیں شیطان تھیں تو یہ درست ہو سکتا ہے کہ ”بیٹھ“ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہوتا تھا اس لئے کہ شیطانوں میں انسانوں کے بھیس بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ غزوہ بدر میں ابلیس مشرکوں کے پاس سراقہ بن مالک کے بھیس میں آیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس قسم کے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں، یہاں علامہ کی تحریروں کے کچھ اقتباس نقل کئے جاتے ہیں تاکہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں:

”میرے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے مصیبت کے وقت مجھ سے مدد طلب کی، ان میں سے ایک شخص ارمینیوں سے خائف تھا اور دوسرا تاتاریوں سے، دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ جب اس نے مجھ سے مدد طلب کی تو دیکھا کہ میں ہوا میں ہوں اور دشمن سے اس کی مدافعت کر رہا ہوں۔ میں (یعنی ابن تیمیہ) نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا، نہ میں نے آپ لوگوں کی کسی چیز سے مدافعت کی ہے، یہ شیطان تھا جو آپ میں سے کسی کو نظر آ گیا اور اللہ کے ساتھ شکر کرنے کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا۔“

علامہ مزید فرماتے ہیں کہ ”اس طرح کا معاملہ ہمارے بیشتر اشخاص کا اپنے شاگردوں کے ساتھ پیش آیا، ان میں سے کوئی شخص شیخ سے مدد طلب کرنا تو دیکھتا کہ شیخ فوراً آگئے اور اس کی ضرورت پوری کر دی، حالانکہ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔“

نیز فرماتے ہیں کہ: ”جب مجھے میرے بعض اصحاب نے بتایا کہ اس نے دو آدمیوں سے جن سے ان کو عقیدت تھی، مدد طلب کی تو وہ دونوں آدمی ہوا میں اڑ کر اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اطمینان رکھو، ہم تمہاری مدافعت کریں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو میں نے اس سے کہا: کیا ان لوگوں نے کچھ کیا بھی؟ اس نے کہا: کچھ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں شیطان تھے، اس لئے کہ اگرچہ شیطان انسان کو کوئی صحیح بات

بتاتے ہیں مگر اس میں اس سے زیادہ جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں جیسا کہ جنات کا ہنوں کو بتایا کرتے تھے۔“

۳۔ بیٹر گوڈوین کے شیاطین اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے جیسا کہ مشائخ کی صورت میں آنے والے شیطان ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے جن سے وہ حمایت اور مدد کا وعدہ کرتے تھے اور جیسا کہ شیطان راہب سے مدد کا وعدہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس میں اس شخص کی ذلت و رسوائی ہے جو کل لوگوں کی نظر میں بہت معزز و محترم تھا۔

۴۔ بیٹر کا یہ کہنا کہ یہ روحیں اللہ کی طرف سے ناسید و مدد ہے، بالکل جھوٹ ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں۔

## جن اور اژن شستریاں !.....

ان دنوں اژن شستریوں کا مسئلہ زیر بحث بنا ہوا ہے چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزر پاتا کہ یہ بات سننے میں آجاتی ہے کہ ایک شخص نے چند اشخاص نے اژن شستری دیکھی جو فضا میں منڈلا رہی تھی، یا زمین کے سینے پر سوار تھی یا اس سے نکلنے ہوئے ایسی مخلوق دیکھی جو انسانی شکل سے بالکل مختلف تھی، حتیٰ کہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس مخلوق نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شستری تک ملنے کے لئے کہا اور اس کی جانچ کی۔

اس قسم کا دعویٰ نہ صرف یہ کہ نام لوگ کر رہے ہیں بلکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جیمی نمایاں شخصیت بھی یہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں صوبہ جار جیا کے آسمان پر ایک اژنی ہوئی چیز محسوس کی جس کی ماہیت و حقیقت سمجھ میں نہ آسکی۔

صدر موصوف دوسری مخلوق ہے جو زمین پر حملہ آور ہونے لگی ہے غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک نام صدر امریکہ نے (اخباری اشاعت کے مطابق) ایک ماہرے گفتگو کی جو اس بات کا قائل تھا کہ کائنات میں انسان ہی واحد مخلوق نہیں ہے۔



صدر جمعی کارٹر کے ساتھ تحقیقاتی امور کے مشیر ”فرانک پرس“ بھی شریک تھے اس کے بعد کارٹر نے قومی صدر گاہ میں کچھ فلمیں دیکھیں جن میں مختصر طور پر بتایا گیا تھا کہ کوکب ارضی سے باہر سکونت پذیر مخلوقات کے متعلق آخری تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں ان فلموں کی نمائش کا کام کارٹرل یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات کائنات کے ڈائریکٹر کارل سازگن نے انجام دیا، کارل سازگن امریکی فضائی ایجنسی کے ان تمام معاملات میں مرجع کی حیثیت رکھتا ہے جن کا تعلق کوکب ارضی سے باہر سکونت پذیر مخلوقات سے ہے۔ (جریدۃ السیاسة، کویت، شمارہ ۳۳۹۹ بتاریخ ۱۲/۵/۱۹۷۷ء)

ضمیمہ اخبار ”الهدف“ کویت مجریہ ۱۹۷۸/۳/۲۳۳ میں چین کے صدر سابق ماؤ زے تنگ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ وہ دوسرے سیاروں میں ہمارے علاوہ اور دوسری مخلوقات کے وجود پر بھی یقین رکھتے تھے۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ تقریباً ۶۰ فیصد امریکی عوام اس کے قائل ہیں۔ امریکی اخبارات کا خیال ہے کہ لگ بھگ نصف ملین امریکی باشندوں نے ان طشتریوں کا پشتم خود مشاہدہ کیا کچھ لوگوں نے براہ راست ان سے ملاقات بھی کی۔

امریکی فلم ساز ”سٹیفن اسپیل برگ“ نے ایک فلم بعنوان ”تیسری صنف سے ملاقات“ تیار کی تھی جس کی لاگت بائیس (۲۲) ملین امریکی ڈالر تک پہنچتی ہے۔ یہ فلم ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد تیار کی گئی تھی، جنہوں نے اڑن طشتریوں کا مشاہدہ کیا تھا یا ان سے ملاقات کی تھی۔ یہ فلم پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس میں دکھائی گئی اس کا مشاہدہ کرنے والے سب سے پہلے صدر امریکہ ہی تھے۔

اس فلم کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکی فضائی ایجنسی نے اس میدان میں تحقیق کی ضرورت محسوس کی۔ ۱۹۷۹ء کی تحقیقات کے لئے کئی ملین ڈالر منظور ہوئے اور اس خفیہ پروگرام کو ”سیٹی“ کا نام دیا گیا۔

اس پروگرام کا خلاصہ یہ تھا کہ دوسرے سیاروں سے آنے والے دائر لیس پیغامات کی تحقیق و جستجو کے لئے خارجی فضا میں چند مخصوص آلات چھوڑے جائیں گے۔ اس جائزہ کے بعد ہم مندرجہ ذیل امور ثابت کر سکتے ہیں:

۱۔ انسان کے علاوہ دوسری عجیب و غریب مخلوقات کے وجود کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں نے اس کو متواتر دیکھا ہے۔ میں بھی طویل عرصہ تک اس موضوع پر شائع ہونے والے مضامین پر نظر رکھتا رہا۔ چنانچہ تقریباً ہر ہفتہ ایک مضمون ایسا ضرور ملتا جس میں کسی جماعت یا شخص کے اس مخلوق کو دیکھنے کا تذکرہ ہوتا۔

۲۔ لوگ ان طشتریوں کی حقیقت اور ان کو استعمال کرنے والی مخلوق کی حقیقت کی تفسیر کرنے میں حیران و پریشان ہیں، خصوصاً جبکہ ان طشتریوں کی رفتار انسان کی ایجاد کردہ کسی بھی سواری سے کہیں زیادہ تیز ہے۔

۳۔ مجھے یقین ہے کہ اس مخلوق کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے جو ہماری اسی زمین پر سکونت پذیر ہے اور جس کے متعلق ہم گفتگو کھل چکے اور بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس انسانوں سے کہیں زیادہ صلاحیت و طاقت موجود ہے۔ انہیں ایسی رفتار ملی ہے جو آواز اور روشنی سے بھی بڑھ کر ہے۔ نیز انہیں روپ بدلنے کی بھی صلاحیت عطا کی گئی ہے لہذا یہ مختلف شکل و صورت میں انسان کو نظر آ سکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان حقائق سے آگاہ کیا، خصوصاً جبکہ ہم ان لوگوں کو حیران و پریشان دیکھتے ہیں جو اپنی ذہنی و علمی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے کارآمد رخ پر ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان طشتریوں کے اس زمانہ میں ظاہر ہونے اور گذشتہ زمانہ میں ظاہر نہ ہونے میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات ہر دور میں اسی دور کے مطابق روپ دھارتے ہیں یہ سائنسی ترقی کا دور ہے اس لئے وہ انسانوں کو ایسے طریقے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو متوجہ کر سکے، آج کی نظریں اس وسیع فضا کو جاننے اور اس میں انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے وجود کے امکانات کو سمجھنے کے لئے بے چین ہیں۔ اس لئے شیاطین بھی اس سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے فائدہ اٹھاتے ہیں۔



## باب (۱۱)

## شیطان کی تخلیق کا فلسفہ

شیطان تمام خرابیوں اور پریشانیوں کا سرچشمہ ہے وہی دنیوی اور اخروی بربادی کی طرف لے جاتا اور ہر طرف اور ہر جگہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے وہ لوگوں کو کفر اور معصیت الہی کی طرف دعوت دیتا ہے تو کیا اس کی تخلیق کے پس پشت کوئی حکمت پنہاں ہے۔ اگر ہے تو آخروہ کون سی حکمت ہے؟ اس سوال کا جواب علامہ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب ”شفاء العلیل“ (ص ۳۲۲) میں دیا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”ابلیس اور اس کی فوج کو پیدا کرنے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کی مکمل تفصیل صرف اللہ کو معلوم ہے۔“

۱۔ شیطان اور اس کے چیلوں سے لڑنے میں عبودیت کے مراتب کی تکمیل:

پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کو عبودیت کے ان مراتب کی معراج پر پہنچانا چاہتا ہے جو اللہ کے دشمن سے لڑنے، اللہ کی خاطر اس کی مخالفت کرنے، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غضب ناک کرنے اور اس کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ مانگنے پر ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ نیز اس پر وہ بہت سے دنیوی و اخروی مصالح مرتب ہوتے ہیں جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے اور جو چیز کسی چیز پر موقوف ہو وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔

۲۔ بندوں کا گناہوں سے ڈرنا:

دوسری حکمت یہ ہے کہ جب فرشتوں اور مومنوں نے ابلیس کی حالت زار اور اس کا ملکوتیت سے شیطیت کی ہستی کی طرف انحطاط دیکھ لیا تو ان کے دل میں گناہوں کا خوف اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ جب فرشتوں نے اس کو دیکھا تو ان

❁ [یہ باب بھی شیخ عمر سلیمان الاطرکی کتاب ”عالم الجن والشیاطین“ سے ماخوذ ہے]

کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور عبودیت پیدا ہوگئی اور مزید خضوع و خوف پیدا ہو گیا جیسا کہ دنیوی بادشاہ کے غلاموں کی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے ان میں سے کسی کو بری طرح ذلیل کیا ہے تو ان میں سے باقیوں کا خوف و احتیاط اور بڑھ جاتا ہے۔

### ۳۔ شیطان سامان عبرت :

تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان لوگوں کے لئے سامان عبرت بنایا ہے جو اس کے احکام کی مخالفت، اس کی اطاعت سے تکبر اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے ابوالبشر حضرت آدمؑ کی غلطی کو ان لوگوں کے لئے سامان عبرت بنایا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردی اشیاء کا ارتکاب کرتے ہیں یا اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اس پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان دونوں کے باپوں کو گناہ میں ڈال کر ان کی آزمائش کی۔ جنوں کے باپ کو ان لوگوں کے لئے عبرت بنایا جو اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں اور انسانوں کے باپ کو ان لوگوں کے لئے عبرت بنایا جو گناہ کے بعد خدا کے حضور میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی عظیم حکمتیں اور نشانیاں ہیں۔

### ۴۔ شیطان بندوں کے لئے فتنہ و آزمائش :

چوتھی حکمت یہ ہے کہ شیطان کسوٹی ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اپنی مخلوق کا امتحان لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ اللہ نے نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نرم بھی ہے سخت بھی، اچھی بھی بری بھی، کس کا خمیر کس مٹی سے بنا ہے یہ ظاہر ہونا ضروری ہے جیسا کہ ترمذی کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹی سے پیدا کیا جو تمام زمین سے لی گئی تھی، چنانچہ آدم کی اولاد بھی اسی پر پیدا ہوئی، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی، سخت بھی ہیں اور نرم بھی۔ جو جس مادہ سے بنا ہوگا اس میں وہ مادہ ضرور رہے گا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ اس مادہ کو ظاہر کرے، اس کے اظہار کے لئے ایک سبب ناگزیر تھا، چنانچہ ابلیس کو کسوٹی بنایا گیا۔ جس کے ذریعہ اچھے اور برے میں تمیز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو بھی اس کام کے لئے کسوٹی بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾  
 ”اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔“ [آل عمران: ۱۷۹]  
 اس نے رسولوں کو مکلف بندوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی، جو اچھا تھا وہ اچھے کے ساتھ مل گیا اور جو برا تھا وہ برے کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے دارالامتحان یعنی دنیا میں اچھے اور برے تمام لوگوں کو ایک ساتھ رکھا۔ جب وہ دارالقرار یعنی آخرت میں منتقل ہوں گے تو اچھے اور برے کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس علیحدگی میں عظیم حکمت و قدرت مضمر ہے۔

### ۵۔ متضاد چیزوں کے تخلیق کے ذریعہ کمال قدرت کا اظہار:

پانچویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل اور فرشتے، ابلیس اور شیاطین جیسی متضاد چیزوں کو پیدا کر کے اپنی کمال قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی قدرت، مشیت اور قوت کی عظیم ترین نشانی ہے۔ وہ آسمان و زمین، روشنی و تاریکی، جنت و جہنم، آب و آتش، سرد و گرم، اور طیب و خبیث جیسی متضاد چیزوں کا خالق ہے۔

### ۶۔ ضد کا حسن ضد سے ظاہر ہوتا ہے:

چھٹی حکمت یہ ہے کہ کسی چیز کے ضد کی تخلیق اس کے ضد کے حسن کا کمال ہے کیونکہ ضد کا حسن اس کی ضد ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بد صورتی نہ ہوتی تو خوب صورتی کی اچھائی سمجھ میں نہ آتی اور غریبی نہ ہوتی تو امیری کی قدر نہ معلوم ہوتی۔

### ۷۔ شیطان کے ذریعہ آزمائش تکمیل شکر کا طریقہ:

ساتویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا مختلف طریقوں سے شکر ادا کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دشمن ابلیس اور اس کی فوج کے پائے جانے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی وجہ سے اللہ کے بندوں نے اللہ کا اتنے

مختلف طریقوں سے شکر یہ ادا کیا کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو وہ اتنے طریقوں سے اس کا شکر ادا نہ کرتے۔ حضرت آدمؑ کے اس شکر میں جب وہ جنت میں تھے اور ابھی وہاں سے نکالے نہیں گئے تھے اور اس شکر میں جب ان کو شیطان کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کتنا عظیم فرق ہے۔

### ۸۔ تخلیق ابلیس، عبودیت کی گرم بازاری کا ذریعہ:

آٹھویں حکمت یہ ہے کہ محبت، انا بت، توکل، صبر، رضا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبودیت ہے، اس عبودیت کی تکمیل جہاد، اللہ کے لیے ایثار و قربانی اور اس کی محبت کو ہر شخص کی محبت پر مقدم رکھنے سے ہوتی ہے۔ جہاد عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام اور اللہ کی سب سے پسندیدہ بندگی ہے۔ شیطان اور اس کی فوج کی تخلیق میں اسی عبودیت اور اس کے ملحقات کی گرم بازاری مضرتھی جس کے فوائد، حکمتیں اور مصلحتیں صرف اللہ کو معلوم ہیں۔

### ۹۔ شیطان کی تخلیق اللہ کی نشانیوں کے ظہور کا ذریعہ:

نویں حکمت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرے ان کو جھٹلائے اور ان سے دشمنی رکھے ایسے شخص کی تخلیق سے اللہ کی نشانیاں اور عجیب و غریب قدرتوں کا ظہور ہو اور ایسی چیزیں وجود میں آئیں جن کا ہونا اللہ کو زیادہ پسند اور اس کے بندوں کے لئے زیادہ نفع بخش تھا، بہ نسبت ان کے نہ ہونے سے جیسے طوفان، لاٹھی، ید بیضاء، سمندر کا پھٹنا، حضرت ابراہیمؑ کا آگ میں ڈالنا یہ اور اس طرح کی بے شمار نشانیوں کا ظہور۔ ان سب نشانیوں کے ظہور کے لیے اسباب کا ہونا ناگزیر تھا۔

### ۱۰۔ اللہ کے اسماء کے متعلقات کا ظہور:

دسویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جن میں ”خافض“ (پست کرنے والا) ”رافع“ (بلند کرنے والا) ”معز“ (عزت دینے والا) ”مدل“ (ذلیل کرنے والا) ”حکم“ (فیصلہ کرنے والا) ”عدل“ (انصاف کرنے والا) ”منتقم“

(انتقام لینے والا) وغیرہ بھی ہیں۔ ان ناموں کا تقاضا ہے کہ ان کے کچھ متعلقات ہوں جو احسان، رزق اور رحمت وغیرہ معانی کی طرح ان کے معانی کے بھی مظہر ہوں، لہذا ان متعلقات یعنی مظاہر کا وجود ضروری ہے۔

### ۱۱۔ اللہ کی مکمل حکومت اور کھلے تصرف کے آثار کا ظہور:

ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل حکومت والا حاکم ہے، اس کی مکمل حاکمیت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، کسی کو ثواب دے کسی کو عذاب، کسی کو عزت دے کسی کو ذلت، کسی کو اس کا منصفانہ حق دے اور کسی کو حق سے بھی زیادہ دے دے، چنانچہ جس طرح اس نے ایک قسم سے متعلق لوگوں کو پیدا کیا اسی طرح دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی پیدا کرنا ضروری تھا۔

### ۱۲۔ ابلیس کا وجود اللہ کی کمال حکمت ہے:

ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکیم ہے۔ حکمت اس کی صفت ہے، اس کی حکمت اس بات کو تسلیم ہے کہ ہر چیز اپنی اسی جگہ پر رکھی جائے جو اس کے سوا کسی کے شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کی حکمت اس بات کی مقتضی تھی کہ متضاد چیزیں پیدا کی جائیں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اسی صفت اور خصوصیت کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے جو اس کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتی ہو، اسی سے حکمت اپنے درجہ کمال کو پہنچ سکتی ہے لہذا انواعِ شیطانی کا وجود کمال حکمت بھی ہے اور کمال قدرت بھی۔

### ۱۳۔ ابلیس کی تخلیق اللہ کے صبر اور بردباری کے اظہار کا ذریعہ:

ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے سامنے اپنی بردباری، صبر، نرمی، وسعت رحمت اور جود و سخاوت کا اظہار کرے، چنانچہ اس کا تقاضا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کے احکام سے سرتابی کرے، اس کی مخالفت کرنے اور اس کو ناراض کرنے میں کوشاں رہے بلکہ اس کی ہمسری بھی کرنا چاہے اور ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اچھی نعمتوں

سے نوازے، اس کو خیر و عافیت بخشے، اس کے لئے مختلف قسم کے اسباب راحت فراہم کرے، اس کی دعائیں سنے، اس کی مصیبت دور کرے، اور اس کے ساتھ بالکل اس کے برعکس کفر و شرک کے مقابلہ میں فضل و کرم کا معاملہ کرے۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور تعریفیں ہیں۔

## ابلیس کے تاقیامت زندہ رہنے کی حکمت

علامہ ابن قیمؒ نے ”شفاء العلیل“ (ص ۳۲۷) میں اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ جو درج ذیل ہے:

### بندوں کا امتحان:

چنانچہ علامہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کسوٹی اور آزمائش بنایا ہے جس سے اچھے برے اور دوست دشمن میں تمیز ہو جائے، اسی لئے اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو قیامت تک زندہ رکھا جائے تاکہ اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اگر اس کو مار دیا جاتا تو وہ مقصد فوت ہو جاتا جیسا کہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے کافر دشمنوں کا وجود دنیا میں تاقیامت رہے۔ اگر انہیں بالکل ختم کر دیا جاتا تو بہت سی حکمتیں بیکار ہو جاتیں جو ان کے زندہ رہنے میں مضمحل ہیں۔ چنانچہ جس طرح خدا کی حکمت کے تقاضا کے مطابق ابو البشر آدمؑ کا امتحان لیا گیا اسی طرح ان کے بعد ان کی اولاد کا بھی امتحان ہوگا۔ جو شیطان کی مخالفت اور اس سے دشمنی کرے گا وہ سعادت سے ہم کنار ہوگا اور جو اس کی موافقت اور اس سے دوستی کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔

### سابقہ نیک اعمال کے بدلہ میں لمبی عمر:

ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے سے اللہ کے علم و حکمت میں یہ بات تھی کہ شیطان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور چونکہ وہ اطاعت و عبادت کر چکا ہے تو اللہ



نے اس کو اس کی عبادت و اطاعت کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا۔ اس طرح کہ اس کو قیامت تک زندگی بخش دی کیونکہ اللہ کسی کو اس کے عمل کی نیکی سے محروم نہیں کرتا، جہاں تک بندہ مومن کا تعلق ہے تو اللہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، لیکن کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے لئے کچھ نہ ہوگا جیسا کہ نبی اکرم ﷺ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔

### گناہوں میں اضافہ کے لیے لمبی عمر:

شیطان کا قیامت تک زندہ رہنا اس کے حق میں عزت و کرامت نہیں کیونکہ اگر وہ پہلے ہی مر جاتا تو یہ اس کے لئے بہتر ہوتا اس کے عذاب میں بھی کمی ہوتی اور شر میں بھی لیکن چونکہ معصیت پر اصرار کرنے، جس ذات کے فیصلہ کو تسلیم کرنا چاہئے اس سے لڑنے، اس کی حکمت پر اعتراض کرنے اور اس کے بندوں کو اس کی بندگی سے روکنے کی وجہ سے شیطان کا جرم سنگین ترین ہو چکا ہے اس لئے اس کو اس سنگین جرم کی سزا بھی سنگین ہی ملے گی، چنانچہ اللہ نے اس کو دنیا میں زندہ رکھا اور خوب مہلت دی تاکہ اس جرم کے ساتھ اس کے ذریعہ گناہوں میں اضافہ ہو جائے اور وہ ایسی سزا کا مستحق ہو جائے جو اس کے علاوہ کسی کو نہ دی جاسکتی ہو، چنانچہ وہ جس طرح شر اور کفر میں شریکوں کا سردار تھا اسی طرح سزا میں بھی ان کا سردار بن جائے گا، چونکہ ہر برائی کی جزا سے نکلتی تھی اس لئے جہنم میں بھی اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی یعنی جہنمیوں کو جو عذاب ہوا کرے گا اس کی ابتدا شیطان سے ہوگی پھر وہ اس کے پیروکاروں تک پہنچے گا، یہ اللہ کا انصاف اور عظیم حکمت ہے۔

### اس کو لمبی عمر دی گئی تاکہ مجرموں پر مسلط ہو جائے:

شیطان کو تا قیامت زندہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے رب سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا تھا:

﴿قَالَ آرَأَيْتَ إِذْ أَعْرَضْتَ عَنْكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْتَجِكَ  
ذُرِّيَّتَهُ الْأَقْلَبِيْلًا﴾ [الاسراء: ۶۲]

”پھر وہ بولا دیکھ تو سہی، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔“

اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آدم کی ذریت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے گھر میں رہنے کے قابل نہ ہوں گے ان کی وہی حیثیت ہوگی جو کوڑے کرکٹ کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لئے شیطان کو زندہ رکھا اور بزبان تقدیر فرمایا کہ یہ ہیں تیرے دوست اور فرمانبردار تو ان کے انتظار میں بیٹھ۔ جب ان میں سے کوئی تیرے پاس سے گزرے تو پکڑ لے۔ اگر وہ میرا مطیع ہوگا تو اس کو تیرے قبضہ میں نہیں دوں گا کیونکہ میں مطیع اور فرمانبردار بندوں کا نگہبان ہوں اور تو مجرموں کا سرپرست ہے جو میری دوستی اور خوشنودی سے بے نیاز ہیں۔ اللہ نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ  
عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ﴾ [النحل: ۹۹-۱۰۰]

”اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرم کرتے ہیں۔“

رہا انبیاء اور رسولوں کو موت آنا تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے نزدیک حقیر تھے بلکہ اس لئے ہوا کہ تاکہ وہ اللہ کی باعزت جگہ میں پہنچ جائیں اور دنیا کی مصیبتوں نیز اپنوں اور غیروں کی تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں تاکہ اللہ ان کے بعد دوسرے رسولوں کو پیدا کرے، ان کی موت ان کے اور ان کی امت دونوں کے لیے ٹھیک ہے۔ ان کے لئے اس لئے کہ انہیں دنیا سے نجات مل گئی اور وہ انتہائی سرور و لذت کے ساتھ رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ اور امت کے لئے اس لئے کہ ان کی امت صرف ان کی زندگی میں اطاعت کی پابند نہ تھی بلکہ ان کی زندگی کی طرح موت کے بعد بھی

اطاعت کی پابند تھی، نیز انبیاء کے پیروکار اپنے انبیاء کی نہیں بلکہ ان کے حکم سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں۔ گویا انبیاء کی موت میں ان کے اور ان کی امت کے لئے بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

اس کے ساتھ تمام انبیاء بشر تھے اور اللہ نے بشر کو دنیا میں ہمیشہ رہنے والی مخلوق بنا کر نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو زمین میں خلیفہ یعنی جانشین بنایا کہ ایک کے بعد دوسرا ان کا قائم مقام بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو ان کو خلیفہ بنانے میں جو حکمت و مصلحت تھی، وہ فوت ہو جاتی اور ان کے لئے زمین کا دامن تنگ ہو جاتا، موت ہر مومن کا نقطہ کمال ہے، اگر موت نہ ہوتی تو دنیا کی زندگی میں کوئی لطف نہ ہوتا اور لوگوں کو دنیا میں کوئی خوشی نہ ہوتی، گویا زندگی کی طرح موت میں بھی حکمت ہے۔

### بنی آدم کو ہلاک کرنے میں شیطان کہاں تک کامیاب ہوا؟

جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو اپنی جنت اور رحمت سے بے دخل کر کے اس پر غضب و لعنت بھیجی تو اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ ہمیں گمراہ کر کے رہے گا اور ہم سے اپنی عبادت کروائے گا۔ ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَا تَخْلُدْنِ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيًّا مَفْرُوضًا وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ﴾ (وہ اس شیطان کی عبادت کرتے ہیں) جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں

انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوں میں الجھاؤں گا۔ [النساء: ۱۱۸-۱۱۹]

﴿قَالَ آرَاءَ يَتُوكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَكِنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ الْأَقْلِيَّةَ﴾ [الاسراء: ۶۲]

”پھر وہ بولا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بیخ سکیں گے۔“

تو شیطان بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا؟ تاریخ

انسانیت پر نظر دوڑانے والا یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ کتنے لوگ گمراہ ہیں اور انہوں نے کس طرح رسولوں اور آسمانی کتابوں کو جھٹلایا اور اللہ کا انکار کر دیا اور اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّمٌ سَأَلُوهَا كِتَابُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَظْمَا لَقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ۴۳]

”پھر ہم نے مسلسل اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا، پھٹکارا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔“

عصر حاضر میں ہم جہاں کہیں دیکھیں ہر جگہ شیطان کے ماننے والوں کا شور سنائی دے گا۔ وہ شیطان کا جھنڈا اٹھائے اس کے اذکار و نظریات کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ شیطان اپنے مقصد کے حصول میں کہاں تک کامیاب ہوا؟ اس کا پتہ ہمیں اس بات سے بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم کو حکم دیں گے وہ اپنی ذریت میں سے جہنمی جماعت کو الگ کریں، جب آدم اس جماعت کی تعداد کے متعلق پوچھیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ننانوے جہنم میں ایک جنت میں۔ ایک روایت میں ہے کہ نوسونانوے جہنم میں ایک جنت میں۔

اسی سے شیطان کا اس ذریت کے بارے میں اپنا خیال صحیح ثابت ہوا، انہوں نے نہ تو اپنے باپ کے ساتھ جو ہوا اس سے عبرت پکڑی اور نہ اپنے اسلاف پر جو گزری اس سے سبق حاصل کیا اور یہ ملعون انہیں تباہی کی طرف لے جاتا رہا بلکہ بسا اوقات وہ خود جہنم کی طرف دوڑ میں شیطان سے آگے نکل گئے۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک دشمن کا خیال اپنے دشمن کے بارے میں صحیح ثابت ہو:

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْآفَرِينَ قَالُوا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”ان کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔“ [سبا: ۲۰]

انسان کے لئے یہ خراب بات ہے کہ اس کے بارے میں شیطان کا خیال صحیح ثابت

ہو یعنی وہ اس دشمن کی اطاعت کرے اور اپنے رب کا ناقرمان ہو جائے۔ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کا بیان یا تصور ممکن نہیں، چنانچہ عراق اور دوسرے علاقوں میں ایسی بھی جماعت ہے جو اپنے آپ کو ”شیطان کے بندے“ کہتی ہے، بعض مصنفین کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کی قسم کھاتے ہیں، کتنا تعجب خیز ہے ان کا یہ رویہ!

ہلاک ہونے والوں کی اکثریت سے دھوکہ نہ کھایا جائے:

عقل مند انسان کو ہلاک ہونے والوں کی اکثریت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اللہ کی میزان میں اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار صرف حق کا ہے، خواہ حق پرستوں کی تعداد اقلیت میں کیوں نہ ہو۔

آپ بھی حق پرستوں میں شامل ہو جائیے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد ﷺ کو اپنا رسول مانتے اور جانتے ہیں، جو شیطان اور اس کے پیروکاروں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور ان سے ہر طرح سے برسر پیکار ہیں، دل سے برامان کر، زبان سے بول کر، ہاتھ سے لکھ کر، حق پر عمل کر کے، اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر اور اس کے دین پر عامل بن کر۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا هُمُوظَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاذْخُلُوا إِلَى اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۰۸-۲۰۹]

”اے ایمان والو! تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پالنے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔“

اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کرے جو پورے طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ (امین)



## باب (۱۲)

## ابلیس کی حقیقت..... (فرشتہ یا جن؟)

ابلیس کہ جس کی اصل جن ہے، کے لغوی معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے ابو یعلیٰ فرماتے ہیں:

”جن، یعنی مستوراً اصلاً استاز سے مشتق ہے۔ ’جن‘ سے ’جنین‘ یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے اور ’جنون‘ الفاظ نکلے ہیں کیونکہ پاگل کا خیال عقل مستور ہوتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

اسی طرح ”بہشت“ کو ”جنت“ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہے اور ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ ”ابلیس“ پہلے فرشتوں میں انتہائی عابد، پرہیزگار، عالم اور مجتہد بلکہ دربار الہی کا مقرب ترین فرشتہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ بعض لوگ اسے معلم الملوک، طاؤس الملائکہ، خازن الجہنم، اشرف الملائکہ، رئیس الملائکہ اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں لیکن فی الواقع ملائکہ میں اس کی فضیلت تو درکنار بنیادی طور پر اس کا فرشتہ ہونا بھی انتہائی مشکوک بات ہے۔ صحابہ کرامؓ کے دور سے ہی ”ابلیس“ کا فرشتہ ہونا ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ پہلے ملائکہ میں سے تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اسے مسخ کر دیا گیا یا اصلاً وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ اس کے متعلق دو اقوال مشہور ہیں جن کا ذکر ان شاء اللہ کتاب التفسیر میں کیا جائے گا۔“<sup>(۲)</sup>

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملعون ٹھہرائے جانے سے قبل اس کا نام ”ابلیس“ نہ تھا بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس، ناکام و نامراد ہونے کے بعد اس کا نام ”ابلیس“ پڑ گیا تھا۔ عربی لغت

❁ [یہ باب فضیلة البغ غازی عزیر مبارکپوری کے مقالہ پر مشتمل ہے جو ماہنامہ ’محدث‘ لاہور (جلد ۲۱ عدد ۱) ۱۹۹۰ء اور بعض دیگر جرائد میں شائع ہو چکا ہے]

(۱) [غرائب الجن والشیاطین كما یصورها القرآن والسنة للشیبلی (ص ۲۰۹، ۲۱۱) طبع دار الریاض]

(۲) [فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن حجر عسقلانی (ج ۶، ص ۳۳۹، ۳۴۰)]

میں ”ابلیس“ اور ”ابلاس“ چونکہ انتہائی مایوس و نامراد اور دل شکستہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا ”ابلیس“ کا نام ”ابلیس“ اس کی مایوسی و ناکامی و نامرادی اور دل شکستگی کی حالت کے پیش نظر ہی پڑا تھا۔ اس امر کی تائید میں حضرت ابن عباسؓ کی ایک یہ روایت پیش کی جاتی ہے:

((کان اسم ابلیس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم ابليس))<sup>(۱)</sup>

”ابلیس کا نام جب وہ ملائکہ کے ساتھ تھا تو عزازیل تھا بعد میں ابلیس پڑ گیا۔“

علامہ حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:

”..... پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدمؑ کے سامنے سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے نہ مانا اور سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ناامید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔“<sup>(۲)</sup>

مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے تفہیم القرآن میں ”ابلیس“ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اصل میں لفظ ملسون استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مایوسی سے ادا نہیں ہوتا<sup>(۳)</sup> بلکہ اور اہلاس کا لفظ کنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کر رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، غم و رنج کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے ناامید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا اور اسی کا ایک پہلو مایوسی و نامرادی کی وجہ سے برافروختہ

(۱) [رواہ الطبری وابن ابی الدنیا و کذا فی فتح الباری (ج ۶، ص ۳۳۹)]

(۲) [تفسیر ابن کثیر مترجم (ج ۱، ص ۹۸) طبع نور محمد کارخانہ تجارت کراچی]

(۳) [حالانکہ اس سے قبل خود مولانا مودودیؒ مرحوم ”ابلیس“ کی شرح میں یوں فرما چکے ہیں:

”لفظی ترجمہ انتہائی مایوس، اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدمؑ اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے درحقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے۔“ تفہیم القرآن للمودودی (ج ۱، ص ۶۶، ۶۵)]

(DESPERATE) ہو جانا بھی ہے جس کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس نام میں یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ یاں اور نامرادی (FRUSTRATION) کی بناء پر اس کا زخمی تکبر اس قدر برا بھختہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے اور ہر جرم کا ارتکاب کر گزرنے پر تلا ہوا ہے۔<sup>(۱)</sup>

بعض روایات میں ”عزازیل“ کے علاوہ ”ابلیس“ کے چند اور نام بھی ملتے ہیں۔ مثلاً: حارث<sup>(۲)</sup>، اجدرع<sup>(۳)</sup>، خزب<sup>(۴)</sup>، وہان<sup>(۵)</sup>، حباب<sup>(۶)</sup>، حیات<sup>(۷)</sup>، علوان<sup>(۸)</sup>، کھدون<sup>(۹)</sup>، نفوس<sup>(۱۰)</sup> اور حکم وغیرہ اسی طرح بعض مفسرین نے اس کی کنیت ”ابومرہ“، ”ابوالکرومیین“،<sup>(۱۱)</sup> اور ابو کردوس<sup>(۱۲)</sup> بیان کی ہے۔ لیکن علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”قرآن کریم (کے مطالعہ) سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نام (سجدہ آدم کے) واقعہ سے بھی قبل ابلیس ہی تھا<sup>(۱۳)</sup>۔

اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کی یہ رائے زیادہ قوی اور باوزن معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم! ذیل میں اب اس مسئلہ پر کہ آیا ”ابلیس“ فرشتہ تھا یا نہیں؟ فریقین کے دلائل اور ان کا علمی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

(۱) [تفہیم القرآن للمودودی (ج ۱، ص ۲۹۴، حاشیہ ۷۳)]

(۲) [رواہ احمد ج ۵، ص ۱۱۱ و ابن جریر و الترمذی و ابن ابی حاتم فی تفسیر و کذا فی الابن کثیر مترجم (ج ۳، ص ۱۰۴) و فتح المجید (۳۹۹، ۴۰۰)]

(۳) [سنن ابوداؤد مع عون العبود، ج ۴، ص ۴۴۵]

(۴) [سنن ابن ماجہ و کذا فی میزان الاعتدال للذہبی ج ۱، ص ۶۲۵] (۵) [ایضاً۔]

(۶) [رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ] (۷) [رواہ طبرانی]

(۸) [رواہ ابن عدی و کذا فی الفوائد المجموعتہ للشوکانی، ص ۴۷۲، و بالموضوعات لابن الجوزی ج ۱، ص ۱۵۸، و تنزیة الشریعة المرفوعة لابن عراق الکنانی، ج ۱، ص ۱۷۴ و میزان الاعتدال للذہبی ج ۱، ص ۲۰۲، ۲۰۰]

(۹) [ایضاً] (۱۰) [ایضاً]

(۱۱) [کذا فی الکتاب لابن خالویہ]

(۱۲) [نقاش کا یہ قول البداية و النهایة لابن کثیر ج ۱، ص ۷۳، ۵۸ پر مذکور ہے]

(۱۳) [فتح الباری لابن حجر ج ۶، ص ۳۳۹]



فریق اول (یعنی ابلیس کو فرشتہ کہنے والوں) کے دلائل:

علامہ ابو بکر عبدالعزیز فرماتے ہیں: ”ابلیس ملائکہ میں سے تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ﴿وَاذْقُنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ﴾ اور جس وقت ہم نے حکم دیا کہ آدمؑ کے سامنے سجدہ میں گرجاؤ تو سب سجدے میں گر پڑے، بجز ابلیس کے۔“ [بقرہ- ۳۴، لآسراء- ۶۱، الکہف- ۵۰، طہ- ۱۱۶]

اس آیت میں واضح طور پر ابلیس کا استثناء کسی غیر جنس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اہل عرب کے نزدیک یہ امر مشہور و معروف ہے پس اگر کوئی کہنے والا کہے کہ تمام نان بانیوں نے دوکان کھولی سوائے فلاں کے، تو اس قول میں ”فلاں“ سے مراد کوئی دوسرا نان بانی ہوگا۔ اس ”فلاں“ سے قائل کی مراد لوہا ہوتو قائل کا یہ قول حسن نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال تو وہی ہوگی کہ کوئی کہنے والا یوں کہے کہ میں نے انسانوں کو دیکھا سوائے گدھے کے۔ یہاں پر کوئی شخص استثناء از غیر جنس کی شہادت کے طور پر عربی کا یہ شعر پیش کر سکتا ہے:

وبلدہ لیس بھا انیس      الا الیعا فیرو الا العیس

مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ”یعنا فیروز اور ”عیس“ دونوں ایک ہی جنس (یعنی ”ایناس“ کی جنس) سے ہیں لہذا اس شعر میں ان کا استثناء انہیں جنس ”ایناس“ سے جدا نہیں کر دیتا البتہ اس مقام پر کسی ”آدمی“ یا ”جن“ کا ذکر ہوتا تو بلاشبہ یہ استثناء غیر از جنس نہیں ہے نیز یہ کہ مذکورہ بالا آیت اس امر کی صحت پر دلالت کرتی ہے کہ ابلیس یقیناً فرشتوں میں سے تھا ورنہ اس کا سجدہ نہ کرنا ہرگز باعث ملامت و عتاب قرار نہ پاتا۔ جب اس کو سجدہ کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا تو اس کی حیثیت تو محض ایک مناظر کی رہ جاتی ہے اس کو مردود و مٹھرانے والی بات اس کا یہ متکبرانہ قول تھا ”انا خیر منہ“ (یعنی میں اس سے بہتر ہوں) یہ کہہ کر اس نے حکم باری تعالیٰ کی خلاف ورزی کی۔ اور اس کے غضب کو اپنی جانب موڑ لیا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ بادشاہ وقت امتناعی اعلان کرے کہ، بزاز (پارچہ فروش) اپنی دکانیں نہ کھولیں۔ اس اعلان کی وجہ سے بزاز تو دکانیں نہ کھولیں مگر نان بانی اپنی اپنی دکان کھول لیں تو ان کو ہدف ملامت بنانا قطعاً درست نہیں کیونکہ وہ اس شاہی ممانعت میں سرے سے داخل ہی نہیں ہیں<sup>(۱)</sup>۔

(۱) [غرائب الحن والشیاطین للشیبلی (ص ۲۰۹، ۲۱۰)]

علامہ ابو بکر عبدالعزیزؓ نے اپنی کتاب ”التفسیر“ میں بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ بلاشبہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا ان کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

آں رحمہ اللہ، اس امر میں علماء کے تمام اختلافات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اگر ابلیس ملائکہ میں سے نہ ہوتا تو باری تعالیٰ کے سجدہ کرنے کے حکم سے وہ خارج ہوتا..... کیونکہ سجدہ کے اس حکم کے مامور تو فقط ملائکہ تھے۔ ہمارا الجماع ہے کہ وہ بھی اس سجدہ کے لئے مامور تھا اکثر مفسرین اور ابن عباسؓ وغیرہ نے ابلیس کو مامور بالسجدہ قرار دیا ہے۔ ابن مسعودؓ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت، سعید بن مسیبؓ، بعض دوسرے اصحاب علم و فضل اور متکلمین کی ایک جماعت ابلیس کے مامور بالسجدہ ہونے کی قائل ہے۔ [ایضاً] ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں: ”میں نے ابو اسحاق بن شافلاؓ کی تعلیمات میں دیکھا ہے کہ ابو اسحاق نے اپنے شیخ (یعنی ابو بکر عبدالعزیزؓ) سے کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا، کیا ابلیس ملائکہ سے تھا؟ آں رحمہ اللہ نے جواب دیا، امر بالجمود یہی بتاتا ہے، اگر ابلیس ملائکہ میں سے نہ ہوتا تو وہ مامور نہ ہوتا۔ [ایضاً]

ابلیس کے ملائکہ کی جنس سے ہونے اور ملائکہ کے درمیان اس کی فضیلت بیان کرنے والی

بہت سی روایات کتب تفسیر میں مذکور ہیں۔ مثلاً:

۱۔ (قال ابن عباس كان ابليس من بشر الملائكة و اكرمهم و كان خلقا على الجن

و كان له سلطان السماء الدنيا و كان له سلطان الارض) (البليغية و النهج ص ۵۵)

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سب سے کرم قبیلہ سے

تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنتیوں کا خازن تھا۔ اس کی بادشاہت آسمان دنیا اور زمین پر قائم تھی۔“

یہ روایت بطریق ”قاسم بن الحسن حدیثاً الحسن بن داؤد حدیثی جلیج عن ابن جریر قال

ابن عباس نحوہ“ مروی ہے۔ لیکن اس طریق میں ایک راوی ”سید حسین بن داؤد“ ہے جس

کے متعلق علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ

”اپنی معرفت و امامت کے باوجود ضعیف ہے۔“ امام نسائیؒ فرماتے ہیں: ”یہ ثقہ نہیں ہے“

علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں: ”نسائی نے اسے کمزور قرار دیا ہے، اس سے ایسی احادیث مروی

ہیں جن کا ائمہ نے انکار کیا ہے۔ ابو حاتم نے اسے ”صدوق“ قرار دیا ہے۔ علامہ ہیشمی فرماتے ہیں: ”امام احمد نے اس کی تضعیف کی ہے لیکن ابن حبان اور ابو حاتم الرازی نے اس کی توثیق کی ہے۔“ (۱)

اس طریق کا دوسرا مجروح راوی ”حجاج بن محمد المصیصی الاعمور“ ہے جسے علامہ ذہبی اور علامہ عیسیٰ نے ”ثقة“ اور امام احمد نے ”أحفظ“ قرار دیا ہے۔ لیکن ابن معین فرماتے ہیں کہ ”اختلاط کرتا تھا“۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ”ثقة اور ثابت ہے لیکن آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔“ (۲)

اس طریق کا تیسرا مجروح راوی ”عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریج“ ہے۔ جو علامہ عیسیٰ اور علامہ ابن حجر کے نزدیک ثقة تو ہے لیکن امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ

”مدلس ہے اور ارسال کرتا ہے۔“ علامہ ذہبی نے بھی اس کی ”مدلس“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن حبان نے عبدالملک بن عبدالعزیز کا ذکر اپنی کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔ مکی بن سعید اور خراش کا قول ہے کہ ”صدوق“ تھا۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ ”اگر حدیثی“ اور

”سمعت“ کے ساتھ روایت کرے تو اس کی حدیث قابل احتجاج ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے عبدالملک بن عبدالعزیز کو اپنی کتاب ”تعریف اہل التقدیس براتب الموصوفین بالمدلس“ کے مرتبہ ثالث میں شمار کیا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے اکثر رجال کی احادیث کے ساتھ ائمہ نے احتجاج نہیں کیا تا وقتیکہ وہ اپنے سماع کی صراحت نہ کریں۔ اس طبقہ میں بعض ایسے رجال بھی ہیں جن کی احادیث کا مطلقاً رد کیا گیا ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے عبدالملک بن عبدالعزیز میں ”مدلس“ کا وصف بیان کیا ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ ”ابن جریج کی

(۱) [تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱، صفحہ ۱۷۵، ۳۳۵، میزان الاعتدال للذہبی ج ۱، صفحہ ۵۳۴، ج ۲، صفحہ ۲۳۶، مجمع الزوائد للہیثمی ج ۵، صفحہ ۲۳۸، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ للالبانی ج ۲، صفحہ ۳۱۴، فہارس مجمع الزوائد للزرغول ج ۳، صفحہ ۳۰۴]

(۲) [معرفة الثقات للمجلی ج ۱، صفحہ ۲۸۶، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱، صفحہ ۱۵۴، تہذیب التہذیب ابن حجر ج ۲، صفحہ ۲۰۵، میزان الاعتدال للذہبی ج ۱، صفحہ ۴۶۴، تاریخ بغداد للخطیب ج ۸، صفحہ ۲۳۶، تحفة الاحوذی للمبارکفوری ج ۱، صفحہ ۱۶۹]

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تدلیس، شرارتد لیس کی قبیل سے ہے کیونکہ وہ قبیلۃ الدلیس ہے۔“ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کی ”تدلیس“ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ عبداللہ بن احمد اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے نقل فرماتے ہیں کہ ”ابن جریج نے جن احادیث میں ارسال کیا ہے ان میں سے کچھ احادیث موضوع ہیں۔“ (۱)

۲۔ ((عن ابن عباس قال: ان من الملائكة قبيلة من الجن كان ابليس منها وكان يسوس ما بين السماء والارض)) (۲)

”حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ملائکہ میں سے ایک قبیلہ جنوں کا ہے، ابلیس اسی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور آسمان وزمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر حکمرانی کرتا تھا۔“

یہ روایت بطریق ”ابن جریج عن صالح مولی التوامة و شريك بن ابی تمر موی ہے۔“ ابن جریج پر علمائے جرح و تعدیل کی جرح او پر بیان کی جا چکی ہے۔ اس سند کا دوسرا مجروح راوی ”صالح بن مبہان مولی التوامة“ ہے۔ جس کے متعلق علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”صدوق تھا لیکن آخر عمر میں اختلاط کرتا تھا۔“ علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں: ”اصمعی“ کا قول ہے کہ شعبہ اس سے روایت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اس سے روایت لینے سے دوسروں کو منع بھی فرماتے تھے۔“ مالک کا قول ہے کہ ”ثقة نہیں ہے۔“ عبداللہ بن احمد نے سحی بن معین کے متعلق بیان کیا ہے کہ ”انہوں نے فرمایا، قوی نہیں ہے۔“ سحی القطن کا قول ہے:

”لم یکن یثقہ“ ابن عیینہ فرماتے ہیں: ”وہ اختلاط کرتا تھا پس اس کو ترک کیا گیا ہے“ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ”ضعیف ہے۔“ ابن معین کا قول ہے کہ ”ثقة تھا لیکن وفات سے پہلے اس میں تحریف آگئی تھی، پس جس نے اس سے اس تحریف کے آنے سے قبل کچھ سنا تو وہ ثابت ہے۔“ ابو حاتم کا قول ہے کہ ”وہ قوی نہیں ہے۔“ ابن مدینی نے اس کی

(۱) [تقریب التہذیب لابن حجر] (ج ۱، صفحہ ۵۲۰) تہذیب التہذیب لابن حجر ج ۲، صفحہ ۴۰۲، تعریف اهل التقديس لابن حجر صفحہ ۹۵، میزان الاعتدال للذہبی ج ۲، صفحہ ۶۵۹، معرفة الرواة للذہبی صفحہ ۱۳۹، الاسامی والکنی لاحمد بن حنبل صفحہ ۸۶، معرفة الثقات للعجلی ج ۲، صفحہ ۱۰۴، تہذیب الکمال للحافظ المعزی ج ۲، صفحہ ۱۳۹، تحفة الاحوذی للمبارکفوری ج ۱، صفحہ ۱۶۹، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲

(۲) [رواہ ابن جریر الطبری و کذا فی البدایة و النہایة لابن کثیر] ج ۱، صفحہ ۱۵۵

”توثیق“ کی ہے۔ امام احمدؒ بھی اسے ”صالح الحدیث“ بتاتے ہیں۔ ابن حبانؒ بیان کرتے ہیں کہ ”۱۱۵ھ میں اس کے اندر تغیر آ گیا تھا پھر وہ ایسی خبریں لایا جو ثقات کی طرف سے موضوعات بیان کرنے کے مشابہ تھیں۔ اس کی حدیث میں اختلاط موجود ہے۔ اس کی قدیم حدیث میں خیر ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ تمیز نہ کر پایا چنانچہ مستحق ترک ہے۔“<sup>(۱)</sup>

۳۔ ((لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل ابليس على ملك الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وانما سموا الجن لانهم خزان الجنة وكان ابليس ملكه خازنا فوقع في صدره انما اعطاني الله هذه المزية لي على الملائكة))<sup>(۲)</sup>

”جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہوا تو عرش پر مستوی ہونا پسند فرمایا پھر ابلیس کو دنیا کا ملک بنایا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ ان کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے خزان ہیں اور ابلیس بھی بیع ملائکہ اس کا ایک خازن تھا، پھر اس کے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دوسرے فرشتوں پر یہ فضیلت (حیرتی لیاقت کی وجہ سے) دی ہے۔“

یہ روایت بطریق ((موسیٰ بن ہارون الہمدانی حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اسباط بن نصر عن السدی فی خبر ذکرہ عن ابی مالک وعن ابی صالح عن

(۱) | تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱، صفحہ ۳۶۳، الضعفاء والمتروکون للنسائی ترجمہ ۳۰۱، المجروحین لابن حبان ج ۱، صفحہ ۳۶۵، الکبیر للبخاری ج ۴، صفحہ ۲۹۱، الضعفاء الکبیر للعقلی ج ۲، صفحہ ۲۰۴، الحرج والتعدیل لابن ابی حاتم ج ۴، صفحہ ۴۱۶، مکامل فی الضعفاء لابن عدی ج ۴، ترجمہ ۱۳۷۳، میزان الاعتدال للذہبی ج ۳، صفحہ ۳۰۲، المجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیر وان صفحہ ۱۳۱، تحفة الاجوذی للمبارکفوری ج ۱، صفحہ ۲۳۸، مجمع الزوائد للہیثمی ج ۱، صفحہ ۲۹۸، ج ۲، صفحہ ۱۴۸، مہارس مجمع الزوائد للزغلول ج ۳، صفحہ ۳۰۹، سلسلہ الاحادیث الضعیفة والموضوعة للالبانی ج ۱، صفحہ ۲۴۹، ج ۳، صفحہ ۹۶، سلسلہ الاحادیث الصحیحة للالبانی ج ۱، صفحہ ۱۱۶، ج ۴، صفحہ ۱۱۳۲

(۲) | کذا فی البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱، صفحہ ۱۵۵

ابن عباس وعن مره الهمدانی عن عبد الله بن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله ﷺ) مروی ہے۔ اس سند میں مجروح راوی موجود ہیں۔

پہلا عمرو بن حماد طلحہ القناد ہے، جسے علامہ حجر عسقلانی، ابن معین، ابو حاتم، اور علامہ ذہبی نے ”صدوق“ لکھا ہے مگر ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ”وہ رافضہ میں سے تھا۔“ امام حجر نے بھی اس کے ”رفض“ کا ذکر فرمایا ہے۔ علامہ ذہبی نے اس سے مروی ایک منکر حدیث اس کے ترجمہ میں نقل کی ہے۔<sup>(۱)</sup>

اس سند کا دوسرا مجروح راوی ”اسباط بن نصر الهمدانی ہے۔ جس کے متعلق علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: ”صدوق تو تھا مگر کثرت کے ساتھ خطا کرتا تھا۔“ علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں: ”یہ سدی کے علاوہ اور کسی سے روایت نہیں کرتا۔“ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ امام احمد نے توقف فرمایا ہے۔ ابویس نے تضعیف کی ہے۔ اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ ”وہ قوی نہیں ہے۔“ امام بخاری نے اپنی تاریخ الاوسط میں اسے ’صدوق‘ لکھا ہے۔ ابن حبان نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب الثقات میں کیا ہے۔ موسیٰ بن ہارون کا قول ہے کہ ”اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“<sup>(۲)</sup>

۳۔ (عن ابن عباس قال: كان ابليس من حي من احياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة)۔<sup>(۳)</sup>

”حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جن کو ”جن“ کہا جاتا ہے، اس کو فرشتوں کے درمیان نار سموم یعنی جلتی ہوئی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا تھا۔“

اس روایت کو طبری نے بطریق ابو کریب بن عثمان بن سعید حدثنا بشر بن عمار عن ابی

(۱) [تقریب التہذیب لابن حجر ج ۲، صفحہ ۶۸، میزان الاعتدال للذہبی ج ۳، ص ۲۵۴]

(۲) [تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱، صفحہ ۵۳، تہذیب التہذیب لابن حجر ج ۱، صفحہ

۲۱۲، میزان الاعتدال للذہبی ج ۱، صفحہ ۱۷۵، معرفة الرواة للذہبی ۶۴، ۶۵، تحفة

الاحوذی للمبارکفوری ج ۴، صفحہ ۳۶۱، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ للابانی ج

۲، صفحہ ۶۰۱، ج ۴، صفحہ ۳۰۱، ۲۳۶، ۳۰۱، الکاشف للذہبی ج ۱، صفحہ ۱۰۵]

(۳) [رواہ الطبرانی |

روق عن انسحاق عن ابن عباس روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں بھی ایک مجرد روای  
 ”بشر بن عمارہ“ ہے جو عند الحماد ثین انجہائی ”ضعیف“ ہے۔ اس کے بارے میں:  
 ابو حاتم فرماتے ہیں: ”قوی نہیں ہے۔“ امام بخاری فرماتے ہیں: ”لن نعرفه ولننكره“  
 امام نسائی نے اس کی ”تضعیف“ کی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس قدر خطاء  
 کرتا ہے کہ حد احتجاج سے خارج ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی امام بخاری اور امام نسائی  
 کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۵۔ ((عن قتاده قال ، كان ابليس عاشر عشرة من الملكة على الريح))

”قتادہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ہوا پر مقرر شدہ دس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا“  
 اس روایت کو ابو یوسف قرقشی نے بطریق ”ابراہیم سعید حدیثا نصر بن علی حدیثا نوح بن قیس عن  
 ابی یسر بن جرور عن قتادہ“ روایت کیا ہے لیکن اس طریق میں ”نوح بن قیس بصری الحدانی“ پر  
 بعض ائمہ حدیث نے حرج فرمائی ہے۔ مثلاً:

لام احمد بن محسن اور علی نے اس کو ”ثقتہ“ قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ  
 ”مصدق لیکن ”مہم بالشیع تھا۔“ ابو داؤد کا قول ہے کہ: ”شیع کرتا تھا۔“ بخاری نے اس کی  
 ”تضعیف“ کی ہے۔ نسائی فرماتے ہیں کہ: ”اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ علامہ ذہبی اسے  
 ”صلح الحاکم“ بتاتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

- (۱) الضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمہ ۷۷، التاريخ الكبير للبخاري ج ۱، ص ۸۰۔  
 الضعفاء الصغير للبخاري ترجمہ ۴، الضعفاء الكبير للعقيلي ج ۱، ص ۱۴۰، المحرج  
 والتعليل لابن ابي حاتم ج ۱، ص ۳۶۲، المحروحين لابن حبان ج ۱، ص ۱۸۸، التلخيص  
 الضعفاء لابن عدي ج ۲، ترجمہ ۴۲۲۔ الضعفاء والمتروكون للمبارقطيني ترجمہ  
 ۱۲۷، سيران الاعتدال للنهسي ج ۱، ص ۳۲۱، تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۱، ص  
 ۴۵۵، المجموع في الضعفاء والمتروكين للسيزوان ص ۶۴، ۲۹۰، ۱۳۰۔ مجمع الزوائد  
 للنهسي ج ۴، ص ۱۱۱، ۳۵، ج ۹، ص ۱۲۵۔ فهارس مجمع الزوائد للزغول ج ۳، ص  
 ۲۵۸۔ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني ج ۴، ص ۱۶۲
- (۲) تقريب التهذيب لابن حجر ج ۲، ص ۳۰۸، تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۱۰، ص  
 ۴۸۵، معرفة الاء حوزي للمباركفوري ج ۳، ص ۱۴۸۔

۶۔ ((قال محمد بن اسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاؤس عن ابن عباس كان ابليس قبل ان يتركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من اشد الملائكة اجتهادا واكثرهم علما فلذلك دعاه الى الكبر وكان من حسي يسمون جنا))<sup>(۱)</sup>

”طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس اپنی معصیت کے ارتکاب سے قبل ملائکہ میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا وہ دنیا کے باشندوں میں سے تھا۔ وہ ملائکہ میں سب سے بڑا مجتہد اور زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ اس کی اس بات نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کو جن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔“

۷۔ ((قال قتادہ عن سعید بن المسیب کان ابلیس رئیس الملائكة بالسماء الدنيا)) [ایضاً]

”سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ، ابلیس آسمان دنیا کے فرشتوں کا رئیس تھا۔“  
اس موضوع پر ان کے علاوہ اور بہت ساری روایات کتب تفسیر میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

”حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا، جنوں کا داروغہ تھا، آسمان دنیا کا بادشاہ تھا، زمین کا بھی سلطان تھا، اس سے کچھ اس کے دل میں گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا، اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو تھا پس اس کے اظہار کے لئے حضرت آدم کو مجبور کرنے کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا۔ برمائے تکبر اس نے صاف انکار کر دیا اور کافروں میں جا ملا۔“<sup>(۲)</sup>

”حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ جن تھا، یعنی جنت کا خازن تھا جیسے لوگوں کی شہروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ، بکی، مدنی، بصری، کوفی، یہ جنت کا خازن آسمان دنیا کے کاموں کا مدبر تھا۔ یہاں کے فرشتوں کا رئیس تھا، اس معصیت سے پہلے وہ ملائکہ میں داخل تھا لیکن رہتا تھا زمین پر۔ سب فرشتوں سے زیادہ علم والا تھا، اسی وجہ سے

(۱) [تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۵۳ و کذا فی البدایة والنہایة لابن کثیر ج ۱، ص ۱۰۵]

(۲) [تفسیر ابن کثیر مترجم (ج ۳، ص ۱۰۴) البدایة والنہایة لابن کثیر ج ۱، ص ۱۷۳]



پھول گیا تھا۔ اس کے قبیلے کا نام جن تھا۔ آسمان وزمین کے درمیان آمدرفت رکھتا تھا، رب کی نافرمانی سے غضب میں آ گیا اور شیطان رجم بن گیا اور طعون ہو گیا..... کہتے ہیں یہ تو جنت کے اندر کام کاج کرنے والوں میں سے تھا۔ [ایضاً]

اور ”ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے اس کا نام حارث تھا اور جنت کا حارث تھا، اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے، قرآن نے بھی ان جوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے: ﴿مَنْ نَارُ مِنْ نَارٍ﴾ [سورۃ الرحمن ۱۵] آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے ’نارج‘ کہتے ہیں جس سے جن پیدا کئے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے انہوں نے فساد اور خوریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا لشکر دے کر بھیجا، انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے فریضہ کراتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے ماحولوں میں پھینچا دیا اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سا گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔“ [تفسیر ابن کثیر مترجم ج ۱، ص ۹۲، ۹۷]

### حاصل کلام:

ان تمام تفسیری روایات کی موجودگی کے باوجود حق تو یہ ہے کہ اس سلسلہ میں رسول اکرم ﷺ سے مردی کوئی صحیح و صریح اثر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تفسیری روایات ملتی ہیں ان کا مدار مختلف صحابہ کرامؓ کے موقوفہ مردی اقوال پر ہے، اور ان میں سے بھی اکثر اقوال ضعیف الاسناد ہیں جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے اگرچہ شریعت میں صحابہ کرامؓ کا قول و عمل بھی امت کے لیے حجت ہوتا ہے (بشرطیکہ وہ قطعی طور پر ثابت ہو اور قرآن و سنت ثابتہ کے صریح و عمومی احکام کے خلاف نہ ہو) مگر اس واقعہ سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رسول اکرم ﷺ کی تربیت یافتہ اور ان کے مخاطب صحابہ کرامؓ علم و فضل اور تقویٰ و بیرونی کے اعتبار سے اگرچہ ارفع و اعلیٰ مسابہد پر فائز ہیں لیکن بہر حال وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ہرگز مصمم عن الخطاء نہیں تھے، لہذا بعض اجتہادی معاملات میں ان سے سہو اور تسامح کا صدور ممکن ہی نہیں بلکہ تقاضا ہے بشریت ہے۔



## فرقِ ثانی (یعنی ابلیس کو جن کہنے والوں) کے دلائل:

اب ذیل میں فرقِ ثانی کے دلائل پیش خدمت ہیں جو ابلیس کو ملائکہ میں سے تسلیم نہیں کرتے:

1۔ پہلی دلیل: ابلیس اور فرشتوں کا مادہ تخلیق مختلف ہے۔ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور ابلیس کو نارسم سے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی اس مرفوع حدیث میں مروی ہے:

((خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّورٍ وَخَلَقْتُ ابْلِيسَ مِنْ نَارٍ سُمُومٍ وَخَلَقْتُ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِمَّا قَلْبُوصَفَ لَكُمْ))<sup>(۱)</sup>

فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور ابلیس کو آگ کی لپٹ سے اور حضرت آدمؑ کو اس (مٹی) سے جو تمہارے لئے (قرآن مجید میں) بیان کر دی گئی ہے۔

قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر ابلیس کو آگ سے پیدا کئے جانے کا ذکر موجود ہے مثلاً:

﴿وَوَخَلَقُ الْجَانَّ مِنْ مَلْحُوجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ [سورة الرحمن، ۱۵]

”اور جنات کو (خاس) آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔“

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ [سورة الحجر، ۱۷]

”اور جن کو اس سے قبل آگ کی گرم لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔“

﴿قَالَ اَتَاخِيْرُنَّ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ﴾ [الاعراف، ۱۲، ص ۷۶]

”ابلیس (جہنم) میں اس سے بہتر ہیں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے“

ابلیس اور ملائکہ چونکہ دو مختلف مادوں سے تخلیق کئے گئے ہیں لہذا ان کی عادات، صفات اور عیاشی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں جو آپس میں ان کی جنس کے مختلف ہونے کی دلیل ہے۔

2۔ دوسری دلیل: فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث، بلورنہ ہی ان کا ظاہر تولید و افزائش نسل کا سلسلہ موجود ہے جبکہ جن انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، نہ مذکر مؤنث دونوں جنس میں بھی ان میں موجود ہیں اور تولید و افزائش نسل کا سلسلہ بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

(۱) [اسلام ج ۸، ص ۲۶۶، کتاب التوحید لابن منہج ج ۱، ص ۲۲، تاریخ جرحان للہمی ص ۶۲، الاسماء والصفات للہمی ص ۲۷۷، تاریخ ابن عساکر (۲: ۳۱۰)، فتح الباری ۱/۲: ۱۲۰]

”سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ملائکہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی ان میں تو والد و تاسل کا سلسلہ ہے۔“<sup>(۱)</sup>

اور علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”یشک جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں وہ بنی آدم کی طرح کھاتے پیتے اور افزائش نسل کرتے ہیں،“<sup>(۲)</sup>

قرآن کریم میں بھی جن کی اولاد ہونے کا ذکر بصراحت موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اَلَمْ تَجِدْ اَوْلَادَهُمْ وَاَوْلَادَهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنِي وَمَا لَكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ لِلْمُظَلِّمِينَ بَدَلًا﴾

”پھر بھی کیا تم اس کو اور اس کی ذریت (اولاد) کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔“ [سورۃ الکہف، ۵۰]

اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”شیطان کی ذریت، توابع، مددگار اور اس کا لشکر ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔“

لیکن بعض مفسرین نے سورۃ کہف کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں خواہ مخواہ کا تکلف برتا ہے چنانچہ ان کا دعویٰ ہے کہ: ”اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار ہیں یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلی اولاد بھی ہو۔“ علامہ قرطبی اپنی کتاب ”الذکرہ“ میں فرماتے ہیں: ”یہ واضح نہیں ہے کہ جنوں میں سلسلہ تولید موجود ہے لیکن ایسا کہنے کی ممانعت مذکور نہیں ہے۔ ملائکہ کے برخلاف ان میں مذکر و مؤنث موجود ہیں۔“

حضرت سلمان فارسیؓ سے ایک صحیح حدیث میں شیطان کی صلی اولاد کا موجود ہونا اس طرح مروی ہے: ”..... بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ:

”حضرت معاویہؓ بن الحکم اللہ کے رسول ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! میں آپ سے ایک ایسی بات دریافت کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق آپ سے کسی نے سوال نہ کیا ہوگا۔ (وہ بات یہ ہے کہ) ہمارے باپ کون تھے؟ آپ نے فرمایا، حضرت

(۱) [فتح الباری لابن حجر (ج ۶، ص ۳۰۶)]

(۲) [البدایة والنہایة لابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۶]

آدمؑ، (پھر سوال کیا) ہماری ماں کون تھیں؟ (آپؐ نے فرمایا) حواءؑ (پھر سوال کیا)، جن کا باپ کون تھا؟ جواب دیا کہ ابلیس، پھر پوچھا کہ جنات کی ماں کون تھی؟ آپؐ نے فرمایا، اس کی عورت۔“ (۱)

اس حدیث کو طبرانیؒ نے ”معجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے لیکن علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ: ”اس کی اسناد میں ایک راوی طلحہ بن زید ہے جس کی امام بخاریؒ اور امام احمدؒ نے تصحیف کی ہے، لیکن ابن حبانؒ نے اس کا ذکر اپنی کتاب اشعرات میں کیا ہے (۲) اگرچہ طبرانیؒ کی یہ حدیث سداضعیف ہے مگر ملائکہ کے برخلاف ابلیس کو صاحب العاقلہ اور صاحب اولاد ثابت کرتی ہے۔ ابو یعلیٰؒ فرماتے ہیں کہ:

”ابو اسحق بن شاقلاً نے اپنی تعلیقات میں لکھا ہے کہ ہمارا اجماع ہے کہ ملائکہ میں نکاح نہیں ہوتا اور انہ ان کی اولاد ہوتی ہے لیکن ابلیس صاحب اولاد ہے۔ اس کا صاحب اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ملائکہ سے مختلف جنس ہے اگرچہ ابو بکر عبدالعزیزؒ کا ظاہر کلام ہے کہ وہ ملائکہ میں سے تھا۔“ (۳)

3- تیسری دلیل: ابو اسحق بن شاقلاًؒ مزید فرماتے ہیں:

”ابلیس میں شہوت بھی موجود تھی جو اسے ملائکہ سے مختلف جنس ثابت کرتی ہے۔“

لیکن ابو اسحق کے اس قول کا جواب فریق اول اس طرح دیتا ہے:

”ابلیس کی شہوت اس کے دیوان سے معزول کئے جانے کے بعد بیان کی گئی ہے۔ جس طرح کہ ہاروت و ماروت کے قصہ میں شہوت کا ذکر ان کو دنیا میں اتارے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ [ایضاً]

4- چوتھی دلیل: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدائشی طور پر فطرۃ و طبعاً اپنا مطہع

و فرمانبردار بنایا ہے چنانچہ علامہ فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں:

”علمائے دین میں سے جمہور اعظم کا تمام ملائکہ کی عصمت پر اتفاق ہے۔“ (۴)

(۱) | معجم الاوسط للطبرانی | (۲) | مجمع الزوائد للہیثمی ج ۱ ص ۱۹۳ |

(۳) | غرائب الجن والشیاطین للشبلی ص ۲۰۹ |

(۴) | تفسیر کبیر للرازی ج ۲ ص ۱۶۶، طبع دارالکتب بطهران |

قرآن کریم کی متعدد آیات میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم، ۶۰]

”اللہ تعالیٰ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔“

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل، ۵۰]

”وہ اپنے رب کی سرکشی نہیں کرتے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الانبیاء، ۲۶، ۲۷]

”بلکہ (وہ فرشتے اس کے) معزز بندے ہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اسی حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔“

یہ تمام آیات فرشتوں کی تمام معاصی سے برأت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں بخلاف اس کے جنات کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طرح ذی اختیار بنایا ہے۔ ان میں برے بھلے، کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت کی تمیز کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ چونکہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا اسی باعث اس کے لیے اپنے ذاتی اختیار و ارادہ سے تکبر و غرور میں مبتلا ہو کر فسق و معصیت کی راہ اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے خارج ہونا ممکن ہوا۔ شیطان کی ذاتی، عمدا اور اختیاری حرکت کے لیے قرآن حکیم میں بصراحت ”ابی واستکبر“ [البقرہ، ۳۴] (یعنی اس نے انکار اور تکبر کیا) اور ”فسق“ [الکہف، ۵۰] (یعنی اس نے نافرمانی کی) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم سورہ کہف کی آیت ۵۰ کی تفسیر کے خلاصہ میں ابلیس کی نافرمانی کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”..... اس (ابلیس) نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا (کیونکہ بنات کا عنصر غالب جس سے وہ پیدا کیئے گئے ہیں، آگ ہے اور عنصر نار کا متقاضی پابند نہ رہنا ہے مگر اس تقاضائے عنصری کی وجہ سے ابلیس کو معذور نہ سمجھا جائے گا کیونکہ اس تقاضائے عنصری کو خدا کے خوف سے مغلوب کیا جاسکتا تھا)۔“ (۱)

(۱) [معارف القرآن، از مفتی شفیع (ج-۵، ص ۵۸۷)]

5- پانچویں دلیل: سورہ کہف کی آیت ۵۰، ابلیس کے ”جن“ ہونے پر صریح نص ہے جو فرشتوں سے الگ مخلوق کی ایک مستقل صنف ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [سورۃ الکہف ۵۰]

”اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے۔ جز ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔“

اس یا بعض دوسری آیات<sup>(۱)</sup> میں ابلیس کا ملائکہ کے ساتھ جو استثناء بیان ہوا ہے اس سے ہی بعض مفسرین کو ابلیس کے فرشتہ ہونے کا گمان ہوا ہے، حالانکہ یہ استثناء متصل نہیں بلکہ منقطع ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے آیت ”کان من الجن“ کی تفسیر میں اس استثناء متصل و منقطع کے متعلق علماء کے اختلافات کو نقل فرمایا ہے:

”بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن ملائکہ کی ہی ایک قسم ہیں کیونکہ یہ استثناء متصل ہے جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ استثناء متصل نہیں بلکہ منقطع ہے اور ابلیس ”ابوالجن“ ہے پس اس کی ذریت بھی ہے جس کا ذکر اس کے ساتھ اسی آیت میں آگے کیا گیا ہے اور ملائکہ کی کوئی ذریت نہیں ہے۔“<sup>(۲)</sup>

امام جلال الدین اہلبیہ و السیوطی نے متعدد مقامات پر ”ابلیس“ کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وہ ابوالجن تھا اور ملائکہ کے درمیان رہتا تھا۔“<sup>(۳)</sup>

”وہ ابوالجن تھا اور اس کی مصاحبت ملائکہ کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔“<sup>(۴)</sup>

(۱) [سورۃ بقرہ - ۳۴/سورۃ اعراف، ۱۱- الحجر، ۳۱/طہ- ۱۱۶/ص ۷۴- الاسراء ۶۱]

(۲) [سورۃ بقرہ - ۳۴/الاعراف، ۱۱- الحجر، ۳۱/طہ ۱۱۶-ص ۷۴- الاسراء ۶۱]

(۳) [تفسیر جلالین بر حاشیہ قرآن کریم، ص ۲۴۸، طبع مکتبۃ الشعبیہ بمصر]

(۴) [ایضاص ۷، ۱۲۴، ۲۱۷ تفسیر سورۃ البقرہ، ۳۴- الاعراف، ۱۱- الحجر، ۳۱]



مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”حکم جحد فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس اس میں ججا شامل قرار دیا گیا۔ سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے: ﴿مَعَانِفِكَ أَلْتَسْجِدُ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [سورہ اعراف ۱۷] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جحد کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا اسی لیے اس سورت کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے ظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لیے مخصوص ہونا معلوم پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا اس لیے ججا وہ بھی اسی حکم میں شامل تھا کیونکہ آدم کی تعظیم و تکریم کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگ مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا ججا اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لیے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے جحد کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا اور شاید قرآن کریم کے الفاظ ”مَنْ هِيَ انْ يَكُونُ مَعَ السَّجِدِينَ“ [الحجر ۳۱] میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ ابھی ان بسجد کے بجائے ان یکون مع السجدین ذکر فرمایا ہے جن سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے مگر عقلاً لازم تھا کہ ابلیس بھی ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا۔“<sup>(۱)</sup>

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم اور مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی توجیہات سے قدرے ہٹ کر علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”اگرچہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے لیے جحد کرنے کا حکم دیا تو ان ملائکہ کے خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا۔ کیونکہ اگرچہ وہ ان ملائکہ کے عنصر تخلیق سے نہ تھا، لیکن پھر بھی اس میں ملائکہ سے بہت کچھ مشابہت موجود تھی (یعنی ملائکہ بھی نظروں سے مستور ہوتے ہیں اور جن بھی) پس وہ اس خطاب میں داخل تھا جو ملائکہ کے لیے تھا۔“<sup>(۲)</sup>

ابلیس کو ملائکہ میں سے ثابت کرنے والے سب سے بڑے وکیل علامہ شیخ ابو بکر عبدالعزیز کو استثناء متصل کی بھرپور کالت کرنے کے بعد جب سورہ کہف کی آیت ۵۰ اپنے موقف

(۱) [مطرف القرآن للشفیع، ج ۱، ص ۲۸۷-۲۸۸] (۲) [تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۰۳]



سے حعارض نظر آئی تو اس کی تاویل اس طرح فرمادی:

”اگر یہاں بعض لوگ ابلیس کے مختلف ناموں یا اس آیت کو پیش کریں ”الا ابلیس مکان من الجن“ تو اس سلسلہ میں بعض محققین کا قول ہے کہ ”جن“ بھی ملائکہ کی ہی ایک قسم ہے جن کو ”جن“ کہا جاتا ہے جس طرح کہ کروہیوں، روحانیوں، غزنیہ، زبانہ وغیرہ سب ایک ہی جنس کی مختلف انواع کے نام ہیں، اسی طرح آدمی، زنج و عرب و عم (کہلاتے ہیں) پس اگر کہنے والا کہے کہ میں نے اپنے تمام غلاموں کو فرمانبر دلہی کا حکم دیا پس انہوں نے اطاعت کی سوائے فلاں کے پس وہ زنج سے تھا اور اس نے میری نافرمانی کی۔ اس قول کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کا زنجی غلام جنسیت کے اعتبار سے ان باقی غلاموں میں شریک نہ تھا یا وہ باہتر نوعیت اس سے الگ تھے۔“<sup>(۱)</sup>

علامہ ابو بکر عبدالعزیز کی یہ تعبیر اگر تاویل بعید نہیں تو کم از کم قرآن کریم کے ظاہری کلام سے مختلف اور محتاج دلیل بہر حال ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت بھی ضروری محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان تمام مکالمہ براہ راست ہوا تھا، جن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ کسی فرشتے کے توسط سے ہوا تھا۔“

انہوں نے قرآنی آیات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر محض تکلف کیا ہے چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم سورۃ البقرۃ کی آیت ۳۳ کے قاعدہ میں لکھتے ہیں:

”فرشتوں کو بلا واسطہ حکم کیا ہوگا اور جنوں کو کسی فرشتہ وغیرہ کے ذریعہ سے کیا گیا ہوگا۔“<sup>(۲)</sup>

اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم سورۃ ص کی آیت ۶۹ کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اس سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ملائع اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ دوسرے نہیں بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

سورۃ الاعراف کی آیات ۱۲ تا ۱۸، سورۃ الحجر کی آیات ۳۲ تا ۳۳ اور سورۃ ص کی آیات ۵۸ تا ۵۹ صاف طور پر بتاتی ہیں کہ ابلیس سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ دوپہر اور براہ راست ہوا تھا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

(۱) [غرائب الجن والشیاطین للشلبلی ص ۲۰۹، ۲۱۱]

(۲) [قرآن مع ترجمہ و تفسیر اختصار شدہ بیان القرآن للٹھانوی، ص ۶، طبع ناخ کیمپنی]

(۳) [تفہیم القرآن للمودودی ج ۴، ص ۳۴۷، حاشیہ ۵۹]

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ الْأَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، قَالَ فَاقْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ، قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، قَالَ لِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَا يَبْتَهُمْ مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْحُجًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة الاعراف، ١٨:١٢]

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانع ہے جبکہ میں تجھ کو علم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل پیشک تو ذیلیوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور انکی داہنی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جو شخص ان میں تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سے جہنم کو بھروں گا۔“

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ الْآتِكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مُسْتَوْسِقِينَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُعْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْأَعْبَادَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة الحجر، ٣٢:٣٣]

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس تجھ کو کون سا امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں

شامل نہ ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بھتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا: (اچھا پھر) یہاں سے نکل جا کیونکہ بیشک تو مردود ہو گیا اور بیشک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ کہنے لگا کہ اے رب پھر مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اچھا) تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئی۔ کہنے لگا: اے رب! بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے (بجلم نکوین) گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے ان سب سے بے شک تھم کا وعدہ ہے۔“

6۔ چھٹی دلیل: اسلاف میں سے حسن بصری، قتادہ اور شہر بن حوشب وغیرہ ابلیس کو ملائکہ سے نہیں بلکہ جنات میں سے جاتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے:

((عن الحسن ،ماکان ابلیس من الملائكة طرفة عين وانہ لاصل الجن کمان آدم اصل البشر))<sup>(۱)</sup>

”ابلیس لمح بھر کے لئے بھی فرشتہ نہیں رہا، وہ اسی طرح جنات کا باپ ہے جس طرح حضرت آدم انسانوں کے باپ ہیں“

((عن شہر بن حوشب ،کان ابلیس من الجن الذین طردوہم الملائكة فاسروہ بعضهم وذهب بہ الی السماء))<sup>(۲)</sup>

”حضرت شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جن کو ملائکہ نے مارتا پھر بعض ملائکہ نے اس کو قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے تھے۔“

علامہ ابو القاسم انصاری فرماتے ہیں:

”ہمارے شیخ ابو الحسن کا مسلک اور ابو اسحق بن شافلا کا ظاہر کلام یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں

(۱) [رواہ ابن جریر و کذا فی البدایة و النہایة (ج ۱، ص ۷۳، ۵۵) حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”حسن سے اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۵۳)]

(۲) [رواہ ابن جریر و کذا فی البدایة و النہایة (ج ۱، ص ۵۵) تفسیر لابن کثیر (۱/۵۳۱)]

سے نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ ابو اسحقؒ نے علامہ عبدالعزیزؒ پر حسن بصریؒ کے قول کو دلیل بنا کر ابلیس کے ملائکہ میں سے ہونے کی سخت تردید فرمائی ہے۔<sup>(۱)</sup>

علامہ شیخ محدث القاضی بدر الدین عبداللہ الشبلیؒ (م ۶۹۷ھ) جو بقول علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ، امام ذہبیؒ کے علاوہ میں سے تھے، فرماتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ ابن شافلّا کا قول جسے ابن ابی الدنیانے بطریق علی بن محمد بن ابراہیم حدیث ابو صالح حدیث معاویہ بن صالح عن العلاء بن الحارث حدیث، عن ابن شہاب روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابن شافلّا سے ابلیس کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: ابلیس جنات میں سے تھا بلکہ وہ تو ابو الجن ہے جس طرح کہ آدمؑ انسانوں میں سے ہیں اور ابو الناس ہیں، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم!“ [ایضاً]

مشہور مفسرین میں سے علامہ ابن کثیرؒ<sup>(۲)</sup> علامہ شیخ فخر الدین الرازیؒ<sup>(۳)</sup> اور علامہ زحمریؒ وغیرہ ابلیس کے ملائکہ میں سے ہونے کے بجائے جنات میں سے ہونے کے قائل ہیں، چنانچہ علامہ حافظ ابن کثیرؒ سورۃ الکہف کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا وہ جنات کی اصل ہے۔ جیسے کہ حضرت آدمؑ انسان کی اصل ہیں۔“<sup>(۴)</sup> اسی طرح درر حاضر اور ماضی قریب کے مفسرین میں سے علامہ شیخ علی الصابونیؒ<sup>(۵)</sup> ڈاکٹر محمد حسن خان، ڈاکٹر محمد تقی الدین الصلالی المراكشیؒ<sup>(۶)</sup> اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ<sup>(۷)</sup> وغیرہ نے بھی ابلیس کو فرشتہ تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے متعلق جنات میں سے ہونے والے قول کو ترجیح دی ہے چنانچہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ مرحوم اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے بعض مقامات پر بصراحت فرماتے ہیں:

”..... نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا آگے چل کر قرآن

(۱) [غرائب الحن والشیاطین للشبلی ص ۲۰۹، ۲۱۲]

(۲) [تفسیر لابن کثیر، مترجم ج ۳، ص ۱۰۴] (۳) [التفسیر الکبیر للرازی

ج ۲، ص ۱۷۰، کذا فی التفسیر لابن کثیر مترجم ج ۳، ص ۱۰۴]

(۴) [تفسیر لابن کثیر مترجم ج ۳، ص ۱۰۴] (۵) [صفوة التفاسیر للصابونی ج ۱ ص ۵۲]

(۶) [انگریزی ترجمہ و تفسیر روح المعانی القرآن کریم (سورۃ الکہف - ۵۰) طبع ترکی]

(۷) [تفہیم القرآن للمودودی ج ۱، ص ۶۶، ۶۷، حاشیہ ۴۶، ج ۳، ص ۳۰، حاشیہ ۴۸]

نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہیں۔“ (۱)

”..... یہ تصریح ان غلط فہمیوں کو رفع کر دیتی ہے جو عموماً لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے تھا اور فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ معلم المملکت - مزید تصریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ الحجر، آیت ۷۷، اور سورۃ الجن آیات ۱۵، ۱۳۔“ (۲)

علمائے سلف و خلف کی قرآن و سنت کے عین مطابق ان تمام تصریحات کے باوجود فریق اول کے دوسرے بڑے وکیل علامہ آلوسیؒ اور ان کی تقلید میں ماضی قریب کے مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم وغیرہ ابلیس کو ملائکہ میں سے منوانے پر بعینہ ہیں، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

”مسئلہ: یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت اس سے سلب کر لی۔ اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا، بعض نے فرمایا کہ جب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شعر یہ ہے: اذلم یکن عون من اللہ للفتی فلول ملیجی علیہ اجھادہ (۳)

اسی طرح شیخ ابوالوفاء علی بن عقیلؒ بھی اپنی کتاب ”الارشاد“ میں فرماتے ہیں:

”اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے آیا ابلیس ملائکہ میں سے تھا یا نہیں؟ تو ہمارے بعض اصحاب کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ جواب دو کہ وہ ملائکہ میں سے تھا۔“

### خلاصہ کلام اور راجح موقف

خلاصہ کلام یہ کہ ابلیس کے ملائکہ میں سے ہونے کے متعلق فریقین کے تمام دلائل اور ان کا تقابلی علمی جائزہ اوپر پیش کیا جا چکا ہے، ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر قطعی غیر جانبدارانہ نظر

(۱) [ایضاح، ص ۶۵، ۶۶، حاشیہ ۴۶] (۲) [ایضاح، ص ۳، ۳۰، حاشیہ ۴۸]

(۳) [معارف القرآن للشفیخ (ج ۱، ص ۱۳۲) روح المعانی للآلوسی]

سے مطالعہ کیا جائے تو یہ یہی بات باعتبار عقل و دانش زیادہ صحیح اور کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے عمومی احکام سے قریب تر نظر آئے گی کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ صحابہ کرامؓ اور سلفؓ و صالحین سے ابلیس کے فرشتہ ہونے کے سلسلہ میں جو اقوال مروی ہیں ان کی تائید رسول ﷺ کے کسی فرمان سے نہیں ہوتی مزید یہ کہ ان موقوف اقوال کی روایات میں سے اکثر انتہائی ضعیف الاسناد، منکر اور ناقابل احتجاج بھی ہیں، اگر الاماشاء اللہ کسی روایت کی اسناد صحیح ہیں تو بھی اس کا ماخذ یا تو اسرائیلی روایات ہیں یا پھر دور جاہلیت کا وہ تصور جس کی طرف عبد اللہ بن مسعودؓ نے اشارہ فرمایا ہے:

”بعض عرب قبائل دور جاہلیت میں ملائکہ کی ایک صنف کی پوجا (عبادت) کیا کرتے تھے۔ ملائکہ کی اس صنف کا نام ان لوگوں نے ”جن“ رکھا ہوا تھا۔“ (۱)

جہاں تک اسرائیلی روایات کا ان روایات کے اصل ماخذ ہونے کا تعلق ہے تو اس دعویٰ کی تائید میں ہم انجیل برناباس کا مندرجہ ذیل اقتباس پیش کرنے کی اجازت چاہیں گے، بالخصوص اس کی خط کشیدہ عبارت:

((Jesus departed from jerusalem and went to the desert beyond jordan.....Satan who was as it were priest and head of the angels by the great understanding that he possessed knew that God .....

”حضرت عیسیٰ یروٹلم سے رخصت ہوئے اور اردن سے پرے ریگستانوں میں چلے گئے ان کے حواری، جو ان کے اطراف میں بیٹھے تھے، نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا، اے مالک! ہمیں باخبر فرمائیے کہ شیطان کس طرح مغرور ہو کر معزول ہوا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے معزول ہوا ہے..... حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ (یعنی مٹی) پیدا فرمانے کے بعد پچیس ہزار سال بغیر کچھ کیے ہوئے اسے یوں ہی پڑے رہنے دیا۔ شیطان جو کہ بہت عابد اور فرشتوں کا سردار تھا، اعلیٰ عقلی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے سبب جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ایک لاکھ چوالیس ہزار انبیاء کو پیدا فرمائے گا..... الخ“ (۲)

(۱) [رواہ طبری و کذافی فتح الباری لابن حجر (ج ۸، ص ۳۹۷)]

(۲) [انگریزی ترجمہ انجیل برناباس ص ۴۵، طبع انگلینڈ]

علامہ حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اس باب میں وارد کثیر روایات کو اسرائیلی قصص سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف کی آیت ۵۰ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”سلف کے اور بھی اس بارے میں بہت سے آثار مروی ہیں لیکن یہ اکثر و بیشتر اسرائیلی ہیں۔ اس لیے نقل کئے گئے ہیں کہ نگاہ سے گزر جائیں۔ اللہ ہی کو ان کے اکثر کا صحیح حال معلوم ہے۔ ہاں بنی اسرائیل کی روایتیں وہ تو قطعاً قابل تردید ہیں جو ہمارے ہاں کے دلائل کے خلاف ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن کافی وافی ہے ہمیں اگلی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ان سے محض بے نیاز ہیں۔ اس لیے وہ تبدیل ترمیم کی بیشی سے خالی نہیں..... الخ“ (۱)

جب ان روایات کا اسرائیلیات سے ماخوذ ہونا مؤکد ہو چکا ہو تو اس سلسلہ میں یہ وضاحت بھی ضروری محسوس ہوتی ہے کہ ایسی اسرائیلی روایات پر کس درجہ اعتماد کیا جاسکتا ہے اور ان پر اعتماد کرنے کے لیے کن شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اسرائیلی روایات پر اعتماد کرنے کے لیے صحیح وثابت احادیث کی شہادت کو لازم قرار دیا ہے، چنانچہ ایک دوسری مشہور اسرائیلی روایت پر تنقید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس طرح کی حدیثوں پر شریعت کی بناء جائز نہیں اور بائناق مسلمین ان سے دین میں قطعاً استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح کی حدیثیں اگر کعب الاحبارؒ اور وہب بن منہبہ وغیرہ بھی جو اہل کتاب سے دنیا کی پیدائش اور حقد میں کے قصے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے تو بھی بائناق مسلمین شریعت میں ان سے استدلال جائز نہ ہوتا۔“..... الخ (۲)

چونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایسی کوئی صحیح اور ثابت حدیث موجود نہیں ہے جو ابلیس کو فرشتہ ثابت کرنے والی اسرائیلی روایات کے لیے مؤید و شاہد بن سکے لہذا اس فکر کی موافقت کرنے والی تمام روایات سے استدلال کرنا درست نہیں بلکہ لائق ترک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔



(۱) [تفسیر ابن کثیر (ج ۳، ص ۱۰۴)]

(۲) [کتاب القاعدۃ الحلیلۃ فی التوسل والوسیلۃ، لابن تیمیہ، (ص ۱۴۷، ۱۴۶)]

